

# آج نہیں تو کبھی نہیں

Now or Never

سستی، کامی اور تن آسانی

Procrastination

تعارف، وجوہات اور علاج

محمد بشیر جمعہ

basheerjuma@hotmail.com  
www.timemangementclub.com  
P. O. Box 8545  
Karachi 75500

آج نہیں تو کبھی نہیں

محمد بشیر جمعہ

**Now or Never**

By: Muhammed Basheer Juma

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

غیر قانونی طور پر چھپوانا اور فروخت کرنا ہر لحاظ سے جرم ہے۔

پہلی اشاعت: دسمبر 2005ء

اہتمام: عبدالسلام سلامی

کمپوزنگ و صفحہ سازی: احمد گرفخس، کراچی

ناشر: اتحاد بکسینٹر

پوسٹ بائس 8545، کراچی 75530

URL: [www.timemanagementclub.com](http://www.timemanagementclub.com)

تقریم کنندگان (پاکستان)

فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 فکس: 021-2633887

انڈیا

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشورز، ڈی 307، دعوت گیر، ابوالفضل انکیو، جامعہ مکر، دہلی 110025

ای میل: [mmcpub@nda.vsnl.net.in](mailto:mmcpub@nda.vsnl.net.in)

## فہرست

### تعارف، تجزیہ، عذرات اور وجہات

9 .....	قصویر ٹھیک کر لیجیے، ایک سبق آموز ٹینیل
11 .....	ستی، کاہلی، ایک دشمن
11 .....	تساہل کیا ہے؟
12 .....	کل کا تصور
14 .....	ہماری مسلسل زندگی پر تساہل کے اثرات
15 .....	تساہل کے اثرات۔۔۔۔۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے
17 .....	ذرا ہمت کیجیے
17 .....	تساہل کی خطرناک علامات
19 .....	لمحوں کی ستی، صدیوں کی سزا۔۔۔۔۔ ایک سبق آموز واقعہ
19 .....	میں جانی ڈھونڈتا، تیری محفل میں رہ گیا
20 .....	تساہل کی اقسام
21 .....	تساہل کے شعبے
25 .....	تساہل، ستی اور کاہلی کا جائزہ

تساہل کے معاملے میں آپ کے عذرات ..... 34
تساہل سے گریز کی چند صورتیں ..... 35
ستی اور کامی کی وجوہات ..... 35

## علاج، حقائق، احساس اور مشورے

چند خفاہ ..... 38
شخصی عناصر جن کے باعث ہم سست اور کامل ہوتے ہیں ..... 39
جاائزہ لیجئے ..... 39
جاائزہ اور خود احتسابی ..... 41
اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے ..... 47

## ایکشن پلان

صحح و شام، پلانگ اور احتساب ..... 50
واضح مقصد اور حصوں میں تقسیم ..... 51
توازن، تواتر و تسلسل ..... 52
حقیقت پسندی ..... 52
ادھورے کام اور ترجیحات ..... 52
ڈیلائئن ..... 53
ترجیحات، امور کی تقسیم اور تفویض امور ..... 53
ماحول کو سازگار بنائیے ..... 59
وقت اور انتظار کے لحاظ ..... 60
بہترین اوقات اور مکومی ..... 60

61 .....	فرصت تو مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے
62 .....	ہاں میں کوشش کروں گا
63 .....	موقع کا انتخاب
63 .....	صحت کا جائزہ
63 .....	دور حاضر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے
64 .....	کرنے کے دو کام
64 .....	اپنے آپ کو ان غم سے بچائیے
65 .....	بیلنس شیٹ
65 .....	وصیت
65 .....	مالیاتی امور
66 .....	زکوٰۃ ووراثت
66 .....	اپنی آخرت کی فکر
66 .....	تمکیل پر خوبی کا اظہار
67 .....	استغفار
67 .....	جنازے میں شرکت
67 .....	حقوقِ نفس
67 .....	چند سوالات
71 .....	ہشیار نہیں، دوراندیش نہیں
71 .....	دعا نہیں
72 .....	آخری سوال

## انساب

1- جو یہ دعا کرتا ہے:

اے اللہ!

تو ہمارے ظاہر کو اچھا اور شاکستہ بنادے

اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنادے

(مسنون دعا)

2- جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے:

خدا اس شخص پر رحم کرے

جس نے تین حکیمانہ کو سنا اور اسے مانا،

جب راہ راست کی طرف بلا یا گیا تو اس سے قریب ہو گیا،

ہادی راہ (معرفت) کا دامن تھاما اور نجات پا گیا،

جس نے دستورات پر وردگار کی گلہداری کی اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہا،

جس نے اپنے عمل خالص کو (مرنے سے پہلے حضور خداوندی میں) بھیج دیا،

جس نے اپنے کردار کو نیک اور شاکستہ رکھا،

جس نے نیک کام کیے اور صرف انہی چیزوں کو حاصل کیا جو (آخرت میں) ذخیرہ بن سکیں  
 اور ان چیزوں سے دور رہا جن سے خدرو اجنب ہے،  
 جس نے اغراض دنیا کو پامال کیا اور (اغراض دنیا کے) عوض (متاع آخرت) حاصل کر لی،  
 جو خواہشوں پر غالب آیا اور اس کی تمناؤں کو دروغ سمجھا،  
 جس نے ٹکلیبائی کو اپنی نجات و رستگاری کا مرکب قرار دیا اور  
 تقویٰ و پرہیزگاری کو تو شہ مرگ بنالیا،  
 راہ روشن پر قدم رکھا اور شاہراہ درخشاں سے دور نہ ہوا،  
 جس نے زندگی کی چند روزہ مہلت کو غنیمت شمار کیا اور  
 فرصتِ عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیا (پھر) موت کی طرف عمل کا تو شہ لے کر بڑھا۔

(حضرت علیؑ)

-3

اے راہرو فرزانہ! رستے میں اگر تیرے  
 گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفان ہو  
 سامان کی محبت میں مضر ہے تن آسانی  
 مقصد ہے اگر منزل، غارت گر سامان ہو  
 (علامہ اقبال)

4- جب ہم ایک سیب کا لٹتے ہیں تو ہمیں چند بیچ نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم بیجوں کو بوبتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنے سیب نکلتے ہیں۔ بیجوں کا اپنارنگ ہوتا ہے اور سیب، بلکہ ہر سیب مختلف رنگ اور مختلف شکل کا۔ یہ کتاب سیبوں کے لیے بھی ہے اور بیجوں کے لیے بھی۔ یعنی سیب کے بیجوں کے لیے اور بیجوں کے سیبوں کے لیے۔

[www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

## تعارف، تجزیہ، عذرات اور وجہات

### تصویر ٹھیک کر لیجیے، ایک سبق آموز تمثیل

ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے جب غل مچانا شروع کیا تو اس نے بڑی محبت سے کہا ”دیکھو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں۔ شور نہ کرو“ بچہ خاموش ہو گیا لیکن زیادہ دیر ضبط نہ کر سکا۔ جب پھر اودھم مچانے لگا تو باپ کو ایک ترکیب سوچ گئی۔ اس نے میز سے پرانے اخبار کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھا کر، اخبار پرچ میں رکھا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں پاکستان ہے، یہاں سعودی عرب، یہاں امریکہ، یہاں بحر الکاہل اور یہاں ہمالیہ ہے۔ بیٹا دیکھتا رہا اور جی ابو، جی ابو کہتا رہا۔ پھر باپ نے وہ ورق اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے حوالے کر دیا اور کہا۔ لو بیٹا۔ اسے برا بر والے کمرے میں لے جاؤ اور نقشے کو پھر سے جوڑ لاؤ۔

جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور دل میں کہا تین چار گھنٹوں کے لیے درد سخت ہوا۔ لیکن اس کی حرمت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھ گھنٹے یا پینتالیس منٹ کے بعد دوڑتا ہوا آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا ”ابا ابو۔ دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ ابو ابو۔ دنیا کا نقشہ ہن گیا۔“ باپ نے دور سے نقشہ پر نگاہ ڈالی۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کی گزرگاہیں، شہروں کے محل و قوع سب اپنے اپنے مقام پر درست پائے۔ پوچھا۔ ”بیٹا تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟“ بیٹے نے جواب دیا ”ابو یہ کام بڑا آسان تھا۔“ باپ کی جتنو اور بڑھ گئی۔ بیٹا نے کہا ”ابو۔ آپ نے جب نقشے کے ٹکڑے

کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نقشے کی دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر یعنی ہوئی تھی۔ بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا۔ دنیا کا نقشہ آپ سے آپ ٹھیک ہو گیا۔“

حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، ہمارے محلوں اور علاقوں کا، ہمارے معاشرے کا اور زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نقشے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں۔ یہ انسان کی تصویر درحقیقت ہماری اپنی تصویر ہے۔ یہ بکھری ہوئی ہے، اسے جوڑنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ماحول کی اصلاح اور حالات کی درستی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نقشہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، تصویر بکھری ہوئی ہے۔ تصویر اس لیے بکھری ہوئی ہے کہ:

- ہماری زندگی کا کوئی نصب اعین نہیں ہے۔
- زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقاصد متعین نہیں ہے۔
- ہمارے ارادے اور عزمِ کمزور ہو چکے ہیں۔
- ہماری طبیعت میں سستی اور کابلی آگئی ہے۔
- ہمارے معاملات میں تساہل پیدا ہو گیا ہے۔
- ہم آج کے کام کو کل پر ثالتے ہیں۔
- ہم ”پھر کبھی“ کا شکار ہیں۔
- فیصلوں میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ بس نکل جاتی ہے، ٹرین چھوٹ جاتی اور فلاٹ بند ہو جاتی ہے۔
- ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ قسمت کامیابی کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور ہم اسے کھولتے تک نہیں۔

درحقیقت ہماری زندگی میں سستی اور کابلی آگئی ہے اور ہم نے ”کل“ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نصب اعین اور مقاصد کا تعین بھی کل کریں گے اور باقی سب کام بھی وقت آنے پر خود بخود ہو جائیں گے۔

## ستی، کاہلی، ایک دشمن

یہ ”تساہل“، ”ست روی“، ”ٹال مٹول“، ”تاخیر“ اور ”پھر کبھی“، ہمارے دشمن اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں۔ یہ نشہ اور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے مگر تساہل اور ست روی کا شکار فرد معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے دفاتر ہوں، کاروبار ہوں یا گھر یا زندگی ہر جگہ اس تساہل والے مزاج نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔

امام عبد الرحمن ابن جوزی<sup>ر</sup> (۵۹۷-۵۱۱ھ) نے اپنی کتاب **منہاج القاصدین** میں توبہ کے

باب میں تسویف (آنکندہ کرلوں گا) کے بارے میں لکھا ہے:

”آنکندہ پر ٹالنے والے باعوم ہلاک ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آنکندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنا ہو۔ وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا، تو وہ کہے کہ میں اس کو اکھاڑنے کے لیے ایک سال کے بعد آؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا، مضبوط ہوتا جائے گا اور خود اس کی جتنی عمر گزرتی جائے گی، وہ کمزور ہو جاتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو کمزوری کی حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا تو جب وہ کمزور ہو جائے گا وہ درخت زیادہ طاقتور، تو پھر اس پر کیسے غالب آسکے گا۔“

## تساہل کیا ہے؟

مزاج اور رویے کے باعث اہم چیزوں کو بغیر اہم امور کے مقابلے میں مؤخر کرنے کے عمل کو تساہل یا ٹال مٹول کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے پروکرشن نیشن (Procrastination) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں

ہوتا اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ابھی کافی وقت اور عمر باقی ہے۔ ہم اللہ کی نعمت ”وقت“ کو ایگاں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”جو نبی آنے والے دن کی پوچھتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے: اے آدم کی اولاد! میں اللہ کی نبی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زادراہ لے سکتے ہو لے لو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔“

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو دو دھڑ کے لگے رہتے ہیں، ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے کیا متاثر ظاہر کرے گا اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاطر اپنی جان کو، آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے جس کو وہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس ایک نشیں جو ہر ہے جس کا معاونہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

### کل کا تصور

ہماری زندگی میں ”کل“ (آنئندہ آنے والا دن یا زمانہ) کا لفظ بھی ایک دھوکا ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ”کل“ کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اتنی وعدہ خلافیوں، اتنی بے جا امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے پرائیوں اور اتنی بر باد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیوں کہ اس کی آنے والی ”کل“ یعنی ”فردا“ کبھی نہیں آتی۔ وقت ایک دفعہ گزر گیا، مر گیا، تو اس کو پڑا رہنے دو۔ اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ۔ آج کی طرف لوٹ آئے مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً ”فردا“ (آنے والا کل) کو کبھی ”امروز“ (آج کا دن) نہیں ہونے دیتے۔

داناوں کے رجسٹروں میں ”کل“ کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بے وقوف کی جنتروں میں یہ

بکثرت مل سکتا ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلا دا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صحیح سے شام تک خیالی پلاو پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صحیح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاچ سکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قسم عمر ”کل“ کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ ”کل“، ہمارے لیے اچھیں اچھیں نعمتیں اور فائدہ منداشیا لائے گا مگر وہ تو آتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایہ ”پھر کبھی“ کا ہے، جو کام کمکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کریں اور آنے والا ”کل“ خود کام کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ روایہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اقصان دہ ہے۔

اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہمارا ذاتی، معائشی، معاشرتی اور قومی مفاد وابستہ ہے، ہم خواہ خواہ ملتوی کر لیتے ہیں اور ان کی بجائے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی بہت ضرورت نہیں ہوتی۔ بس ہم اس لیے دوسرے کام کرنے لگتے ہیں کہ اس میں لذت ملتی ہے، طبیعت کے تسابیں کو عذر فراہم ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔  
ثال مٹول کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا، اس وقت دیکھ لیں گے۔  
آج اس معاملے میں پریشان ہو کر اپنے دن کو کیوں خراب کریں۔ جب دباو آئے گا تو سب کام ہو جائیں گے۔

بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آخری لمحے میں کام کریں۔ اس کا اپنا مزا ہوتا ہے۔ جیسے عید کی رات کو خریداری، انکم ٹکیس کی ادا یا گیکی کی آخری تاریخ کو گوشوارہ بنانا، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا مل آخری تاریخ کو جمع کرنا وغیرہ۔ شاید اس انداز سے وہ خود تکلیف اٹھا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر مزا لینے کی کوشش کرتے ہیں؟

کچھ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات ہی واضح نہیں ہوتیں۔ جب منزل متعین نہ ہو تو سفر کیسے طے ہوگا۔ امام ابن حوزی اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر صفرا کی زیادتی کا مریض سکنخین پینے کے بجائے سکنخین بنانے کی ترکیب سکھنے میں عمر بر باد کر دے تو وہ یقیناً دھوکے میں مبتلا ہے۔ آگے فرمایا: ”خوش قسمت وہ ہے، جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے، دوسری کو چھوڑ دے، عمل کی طرف توجہ

کرے اور اسی کو مقصود اصل جانے۔ (یعنی آج کی زبان میں ترجیحات کا تعین کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے)۔

## ہماری مسلسل زندگی پر سابل کے اثرات

سابل ایک غیر محسوس یہاری اور خود ملامتی سے بھر پور نشہ ہے۔ اس سے انسان لذت لیتا ہے۔ یہ انفرادی مرض بھی ہے، معاشرتی بھی اور قومی بھی۔ اس کے اثرات بھی سخت ہیں۔ ذیل میں اس موضوع کے دو ماہرین جنیں بی برکا اور لینورا ایم یو آن کی کتاب Procrastintion سے ان اثرات کی فہرست دی جا رہی ہے۔

### ممکنہ خارجی اثرات

- اعتماد اور عزت میں کمی،
- دوستوں اور اہل خاندان کے ساتھ تنازعات،
- ساتھیوں اور ہم عصر افراد سے اختلاف و ناراضی،
- افسر بالا سے اختلاف و ناراضی،
- ملازمت کا نقصان یا بے خلی،
- سرکاری جرماء،
- مالیاتی نقصان،
- حادثات یا جسمانی تکلیف۔

### ممکنہ داخلی اثرات

- احساس کمتری،
- شرمندگی اور پیشیمانی،
- یکسوئی کا نہ ہونا،
- سرگرمیوں میں شرکیک نہ ہونا،

- خود ملامتی،
- اضطراب،
- گھٹن،
- جسمانی تکلیف یا بیماری،
- تہائی پسندی۔

**تساہل کے اثرات—اپنی زندگی کا جائزہ لبھی**  
کیا آپ سستی، کامیلی، نال مٹول کے شکار ہیں۔ اگر ہیں اور اندر یہ ہے کہ کسی انداز سے آپ  
اس مسئلے سے دوچار ہوں گے تو پھر اپنی ذات کے مفاد میں جائزہ لیں کہ اس وجہ سے آپ کی داخلی  
اور خارجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔  
اس جائزے کے لیے اگلے صفحے پر دیے گئے چارٹ سے مدد بھیے۔

چارت 1

## ذرا اہم تر سمجھیے

ہم تسال کی اس بیماری کے باعث اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور نہ دنیا بنتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی زنجروں کی طرح پیروں کو جکڑ لینی ہے اور حسرت اور ملائیں مستقبل کا سامان بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان اور جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں مگر بستر سے اٹھنے ہیں رہے۔ ہمیں جا گنا ہے اور مقصد حیات کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے وقت کا پتا نہیں چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رات کو نیند کب آئی۔ دوسرے کسی قوم کا زوال کب شروع ہوا۔ یہ اس قوم کو پتا نہیں چلتا بلکہ اس کے نقصانات آئندہ نسلوں کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے زوال اور انحطاط کی بہت بڑی وجہ یہ تسال اور کاہلی ہے، ناہلی ہے، عدم توجیہی ہے اور مقصد کے شعور کی کمی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات سے لے کر قومی معاملات تک میں اُلٹھاؤ ہے۔ منشوں کے کام ہمیں میں بھی نہیں ہوتے اور ہم خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپنی ذات کا جائزہ لیجیے، پھر اپنے گھر کا، پھر اپنے ادارے، معاشرے، بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی حکومت کا، ہر سطح پر ہمیں اور آپ کو تسال اور ستر روی کا سامنا ہے۔ یہ قومی بیماری زوال کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیماری اور نشہ ہیر و تن اور افیون سے کچھ کم نہیں ہے۔ نامی (Tsunami) کا طوفان تو سمندر کے اندر سے اُلٹھ کر ساحلی علاقوں کو پتاہ کرتا ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی کا سیلا ب اور طوفان کسی دریا اور سمندر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قوموں کے اندر اُبھرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے پوری قوم کو لے ڈو بتا ہے۔

## تسال کی خطرناک علامات

یہ خطرناک علامات ہیں جو پھرے کی مانند آپ کے کام اور رویے سے لوگوں کو پتا چل جاتی ہیں:

- ۱- اگر آپ تسال کا شکار ہیں تو آپ کی شخصیت غیر منظم اور غیر مربوط ہو جاتی ہے اور اس کی واضح علامات یہ ہوتی ہیں:

الف: آپ اہم، بوری اور ترجیحات کے معاملے میں تفریق نہیں کر سکتے۔ بہت سے کام ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اپنا وقت اور تو انائی آپ آرام دہ اور آسان کاموں میں لگاتے ہیں۔

ب: جو لوگ تسلیل کا شکار ہیں وہ عدم تو جبکی اور یکسوئی کی کمی کے شکار ہوتے ہیں۔

ج: تسلیل کے شکار لوگ بہت سارے معاملات اپنی یادداشت پر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں یادداشت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کاموں اور ذمے داریوں کو مجھوں نے کے عادی بن جاتے ہیں۔

د: زندگی میں کاموں کی اور ذمہ داریوں کی فہرست طویل تر ہو جاتی ہے جس پر عمل درآمد ظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسے میں کام کا بڑھتا ہوا باؤ بے اختیاری اور بے بُسی کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔

2- وقت اور اس کے استعمال کے معاملے میں غیر حقیقت پسند ہونا، اپنے معاملات اور منصوبوں (Projects) کے حوالے سے غیر واضح ہونا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہ کرنا، تاخیر سے آنا، دفتر میں دیریکٹ بیٹھے رہنا، گھر پر کام لے جانا اور پھر کچھ نہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ منصوبے بنانا اور پھر تھک جانا یا سوجانا یا طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنالینا۔

3- زندگی کے مقاصد اور اقدار کے معاملے میں واضح سوچ نہ رکھنا، اس معاملے میں غیر ذمہ دار ہونا۔

4- اپنے آپ کو ہمیشہ مضطرب محسوس کرنا۔ ڈپریشن میں بیتلہ ہونا، پریشان ہونا، خود ملامتی کا شکار ہونا۔

5- فیصلہ نہ کرنا اور غلطیوں کا خوف کرنا اور اس خوف کے باعث آگے نہ بڑھنا۔

6- اپنی عزت نفس کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونا اور دوسروں کو موقع دینا کہ وہ آپ کو نصیحت کرتے رہیں۔

7- اکملیت پسندی (Perfectionism) کی خواہش آپ کو کوئی نام نہیں کرنے دیتی، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔

8- نتیجتاً کاہل اور سرت شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔

یہ خطرناک علامات ہیں جو آپ کی ملازمت، کاروبار اور گھر یا زندگی میں آپ کی بقا، سکون اور ترقی میں حائل ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، انہیں کم کرنے کی کوشش کیجیے یا پھر ان کا علاج کریں۔ آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے لیے اس پیاری کا علاج ضروری ہے۔

اگر آپ نے علاج نہ کیا تو یک وقت آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ:

جب کشتمی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی

اب ایسی شکستہ کشتمی پر ساحل کی تمنا کون کرے

## تساہل کی اقسام

بعض ماہرین نے تساہل کی تین اقسام کی نشاندہی کی ہے:

- 1- اپنی ذات کی بھلائی، ترقی اور کامیابی کے معاملے میں تساہل۔
- 2- اپنی زندگی، معيشت، گھر، کاروبار اور سماج کے معاملات سے متعلق عام کاموں میں تساہل اور کامیابی والا روایہ۔
- 3- دوسروں کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ روایہ۔

### 1- اپنی ذات

کچھ لوگ باصلاحیت اور ہنرمند ہوتے ہیں، مگر انہیں کامیابی کا نصب اعین اور مقاصد کا تعین نہیں کرتے۔ کھلی آنکھوں سے کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں اور تصورات میں ہی لطف لیتے رہتے ہیں گرعل کی دنیا میں سستی اور کامیابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ باری ان کے لیے اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔

### 2- زندگی کے معاملات

گھر کے کام کا ج، معاونت، دفتر کے امور، فائلیں وغیرہ، سماج کے تقاضے اور شرکت کے معاملے میں ہم سستی اور کامیابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بوجھ اور مشکل بن جاتی ہو۔ اس عادت کے باعث گھر بیلو، دفتری اور کاروباری جھگٹرے پیدا ہوئے ہیں۔

### 3- دوسروں کے معاملے میں ذمہ داری

آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ روایہ اختیار کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی، وقت پر نہ پہنچنا، ادھار لے کر مقرر وقت پر واپس نہ کرنا، یہ چیزیں آپ کی شخصیت کے تصور (Image) اور وقار کو نقصان پہنچائیں گی۔

## تساہل کے شعبے

زندگی سے سستی اور کامی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ تھیس کریں کہ یہ مرض کن کن صورتوں میں ہمارے معمولات میں داخل ہے۔ ماہرین نے تساہل کی کیفیات اور رویوں کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ یہ فہرست آپ کو اپنی ذات کا جائزہ لینے کا موقع دے گی کہ آپ کن معاملات میں تساہل کا شکار ہیں اور کن معاملات میں مستعد۔

### 1- گھریلو امور

- چھوٹے چھوٹے کام کا ج اور مرمت کے کام،
- مزدور اور مسٹری کو بلانا،
- خراب اور غیر ضروری سامان کی واپسی،
- گھر کے بڑے کام،
- گاڑی کی دیکھ بھال اور مرمت،
- گھریلو ضروریات اور سہولیات کے بلوں کی ادائیگی،
- ساز و سامان کی خرید،
- بیوی بچوں کے ضروری کام کا ج کرنا،

### 2- دفتری امور

- دفتر وقت پر پہنچنا،
- میٹنگ کے لیے وقت کی پابندی سے پہنچنا،
- کار و باری فون باقاعدگی سے کرنا،
- فصلے کرنا،
- کاغذی امور بہتر طریقے سے نمائنا،
- رپورٹس وغیرہ تحریر کرنا،
- افراد کے مسائل پر گفتگو کرنا،

- اچھی کارکردگی پر افراد کی حوصلہ افزائی کرنا،
- تخلیقی خیالات اور تجویز کو قبل عمل بنانا،
- گاہکوں کو اپنی خدمات اور تجارت کے بل بھیانا،
- اپنے لیے تنوہ میں اضافے اور ترقی کے لیے بات کرنا،
- اپنے افسر کے ساتھ متعلقہ معاملات پر گفتگو کے لیے میٹنگ کرنا۔

### 3- ذاتی امور

- جسمانی ورزش کرنا،
- وزن کم کرنے کے طریقے اپنانا،
- سکر بیٹ یا نشہ آور چیزوں کو ترک کرنا،
- طبی مشورے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا،
- حفاظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا،
- بال بنانا،
- ذاتی دلچسپی کے حوالے سے مطالعہ کرنا،
- مشاغل اور دلچسپی کے امور کو انجام دینے کی کوشش کرنا،
- ذاتی دلچسپی کے معاملے میں مختلف کورسز میں شرکت کرنا۔

### 4- سماجی تعلقات

- دوستوں سے ملاقات کرنا یا فون کرنا،
- خط و کتابت کرنا،
- افراد کو مدعو کرنا،
- رشته داروں کے ہاں ملاقات کی غرض سے جانا،
- رشته داروں سے خط و کتابت یا فون پر رابطہ،
- مختلف امور میں ہدیہ تبریک پیش کرنا،

- تختے اور کارڈز بھیجناء،
- سماجی اور معاشرتی امور کے لیے وقت پر پہنچنا،
- مدد اور استغانت کے لیے درخواست کرنا،
- افراد کو یہ بتانا کہ آپ غصے میں ہیں یا ناراض ہیں،
- غیر مفید تعلقات کو ختم کرنا۔

#### 5- مالیاتی امور

- انکم ٹکس کے گوشوارے بھرنا،
- آمدنی و خرچ کا مناسب حساب رکھنا،
- اپنے وسائل کا بجٹ بنانا،
- بجٹ کی سرمایہ کاری کرنا،
- بینک سے گوشوارے یا دیگر متعلقہ امور کے سلسلے میں رابطہ کرنا،
- مختلف قسم کے بلوں کی ادائیگی،
- مختلف اداروں کے قرضوں کی واپسی،
- ذاتی قرضوں کی واپسی،
- مختلف قرض داروں سے رقم جمع کرنا اور یاد دہانی کرنا،
- ریڈیو، ٹی وی کی لائسنس فیس، گاڑی ٹکس اور متعلقہ واجبات ادا کرنا،
- اپنی چیک بک کا جائزہ لینا۔

#### 6- دیگر امور

ان کے علاوہ بھی چند امور ایسے ہیں جن کی ہمارے معاشرے کے تناظر میں بڑی اہمیت ہے:

- معاملات میں اگر غلطی یا زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لینا،
- رشته داروں کے ساتھ مختلف تازعات کو منشا نا،
- دوستوں اور احباب سے ادھار حاصل کی گئی چیزوں کو واپس کرنا،

- حقوق اللہ کے معاملے میں کوتا ہیوں کے سلسلے میں معافی اور توجہ،
- افراد سے تعزیت کرنا،
- مرحومین کے لیے دعاۓ مغفرت کرنا،
- اپنے معاملات کی سہولت کے لیے دعا کرنا،
- عیادات کے لیے جانا،
- احباب سے کیے گئے وعدوں کو ایضا کرنا،
- کسی فرد کی موت کے بعد وصیت اور وراثت کے معاملات کو نہیں نہیں۔

### **تساہل کی چند مزید صورتیں**

ہماری عمومی زندگی میں تساہل چند مزید صورتوں میں آموجود ہوتا ہے، جیسے:

- ہمارے عمومی کام کاموں کے آگے آ جاتے ہیں اور ہم ترجیحات کے معاملے میں اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے۔
- قومی ڈپلین کی کمی کے باعث انہیں اہم کاموں سے فرار کے لیے ہمیں ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ ہم اپنے فرار اور ناکامی کا بوجھ خارجی وجوہات پر ڈالتے ہیں۔
- ہم زندگی کے اپنے مقرر کردہ اہداف تک اپنی اسی قسم کی کوتا ہیوں کے باعث نہیں پہنچ سکتے۔ نتیجتاً ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جس سے استعداد کا متاثر ہوتی ہے۔
- چونکہ ہماری قومی زندگی میں بنیادی فلسفے، تصوریات، پالیسی، متعلقہ منصوبہ بندی اور افراد کا کہ بہتر استعمال کی صلاحیت کی کمی ہے۔ لہذا قومی مزاج ہنگامی اور ایڈھاک ازم کا شکار ہو گیا ہے۔ حکومتیں اور ادارے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی قومی نقصان کو نظر انداز کر کے اہم اقدامات کر لیتے ہیں جو ان کے وجود کو تو فوری طور پر قائم رکھتے ہیں مگر بھیت قوم، ہم اپنی بنیادوں کو بتاہ کرتے ہیں۔
- ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کام کے لیے کوئی آخری تاریخ ہوتی ہے، ہم اسے آخری تاریخ کو ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اس کام کی نہ صرف منصوبہ بندی

بلکہ اصل کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔

• ہمارا مزاج اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موسم بر سات میں جب پانی جمع ہوتا ہے تو ہم پتھر کھ کر راستہ بناتے ہیں۔ حالاں کہ اس معاملے میں افرادی اور بلدیاتی کوششیں پہلے بھی ہو سکتی ہیں۔ پانی کی نکاسی کے ذرائع کی صفائی ہو سکتی ہے۔

• امتحانات کے دنوں میں وقہ کرنے کے لیے چند گھنٹے تک فلمیں دیکھ لی جاتی ہیں یادوں توں کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت چاہے چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، بہت قیمتی ہے۔ ہم اخبار پڑھنے لگتے ہیں، ناول پڑھ کر وقت گزار لیتے ہیں۔ اتوار کے دن گھر کے لیے سودا سلف کی ضرورت ہوتی ہے مگر اخبارات کو سودا سلف پر ترجیح دیتے ہیں۔ نتیجتاً گھر کے لیے بچی کچھی چیزیں آتی ہیں، حالاں کہ اخبارات تو سودا سلف کے بعد بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔

• ٹیلی و ڈن کے چینل گھماتے رہتے ہیں اور انٹریٹ پر مختلف ویب سائٹز (web sites) پر غیر ضروری ورث کرتے ہیں۔ بظاہر اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تے مگر حقیقت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے۔

### تساہل، سستی اور کامی کا جائزہ

آپ تساہل کا جائزہ چار طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لی جاتی ہے کہ بیماری کی صورت میں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے کئی قسم کے ٹیسٹ کرواتا ہے۔ ہر ٹیسٹ کی شکل الگ ہوتی ہے۔ ان لیمارٹی جائزوں (tests) کے نتائج کی روشنی میں ڈاکٹر بیماری کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہ ایک نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ جسے تشخیص (diagnosis) کہتے ہیں۔ تساہل کی تشخیص کے لیے ہم نے افراد کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ پھر شعبہ جات کے نقطہ نظر سے۔ دو اور تجویز یہ ہیں، انہیں بھی آزمائیے۔

**اوقات کا جائزہ:** یعنی آپ کم از کم ایک ہفتے تک اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کن اوقات میں سستی اور کامی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چارٹ کا مطالعہ کریں اور اسے ایک ہفتے تک پُر کرنے کی کوشش کریں پھر خود تجویز کریں یا اپنے کسی بزرگ (mentor) سے مشورہ کریں۔

**کام/امور (function) کا جائزہ:** بعض کام/امور ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، یا آپ میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے۔

### ذاتی اور شعبہ جاتی تسامہ

آپ نے تسامل کی شعبہ جاتی صورتوں کا مطالعہ کیا۔ اب سامنے دیے گئے چارٹ کی مدد سے آپ اپنے تسامل کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سنتی، کاملی، ٹال مٹول اور تن آسانی کی صورتوں کو بڑے کالم میں لکھیں۔ دائیں طرف کے کالموں (1، 2، 3) میں آپ اقسام لکھیں گے اور باائیں طرف کے کالموں (A, B, C, D, E, F) میں شعبے تحریر کریں گے۔

## چارٹ-2

### تساہل کے تجزیہ کا چارٹ

F	E	D	C	B	A	ستی، کاہلی، نال مٹول اور تن آسانی کی صورتیں	3	2	1

## چارت-3

آپ کن اوقات میں سستی اور کامی کا شکار ہوتے ہیں

حل کی تجاویز	دجوہات	ایام						اوقات
		اوار	ہفتہ	جمعہ	بھراث	بدھ	منگل	
								علیٰ لصح
								05-06
								06-07
								07-08
								08-09
								ذفتری و کاروباری اوقات
								09-10
								10-11
								11-12
								12-01
								01-03
								02-03
								03-04
								04-05
								05-06
								ذفتر کے بعد اوقات
								06-07

حل کی تجاویز	بوجہات	ایام							وقات
		ا توار	ہفتہ	جمع	جمعرات	بدھ	منگل	بیہر	
									07-08
									08-09
									09-10
									10-11

جن اوقات میں آپ تسلیم کرتے ہیں انہیں پنسل سے شیڈ کر لیں۔

### حل کی تجاویز

یہاں پر متعلقہ معاملے میں تجاویز تحریر کریں اور نوٹس کا حوالہ کامل ”حل کی تجاویز“ میں دیں۔

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## چارت-4

کن امور میں آپ سستی، کاملی اور تساهل کا شکار ہوتے ہیں

امور	کس وجہ سے	حل کی صورت
- 1 گھر کے کام کا ن		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
- 2 دفتری امور		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

## 3- صلاحیتوں کے معاملات

		•
		•
		•
		•
		•
		•

## 4- بچوں اور گھروالوں کے معاملات

		•
		•
		•
		•
		•
		•

## 5- سماجی و مذہبی معاملات

		•
		•
		•
		•
		•
		•

## چارٹ-5

### تساہل کرنے والے افراد: آپ کہاں ہیں؟

نوعیت	
<b>طلبه و طالبات</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- کلاس میں توجہ و یکسوئی کے ساتھ نہ پڑھنا</li> <li>- گھر پر باقاعدگی سے نہ پڑھنا</li> <li>- کیر پیر پلانگ نہ کرنا</li> <li>- رات کو دیر تک لی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنا</li> <li>- دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرنا</li> </ul>
<b>خواتین</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- گھر کو غیر منظم اور بے ترتیب رکھنا</li> <li>- بجٹ کے اندر نہ رہنا اور غیر ضروری اخراجات</li> <li>- وقت پر اور مناسب کھانا تیار نہ کرنا</li> </ul>
<b>ملازمت پیشہ افراد</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وقت پر نہ پہنچنا</li> <li>- معیاری کام کر کے نہ دینا</li> <li>- کام وقت پر نہ دینا</li> <li>- ذمے دار یوں سے کترانا، اور فرار اختیار کرنا</li> </ul>
<b>سرکاری ملازمین اور افسران</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وقت پر نہ پہنچنا</li> <li>- ایمانداری کے ساتھ وقت نہ دینا</li> <li>- مقابل اور ذاتی کاروبار، زمینیوں اور کارخانوں پر زیادہ وقت دینا</li> <li>- فائلوں کو دبا کر رکھنا اور اس کے لیے نوٹوں کے پہیوں کا انتظار کرنا</li> </ul>

	<h3>کاروباری حضرات</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>- کاروبار کی مناسب منصوبہ بندی نہ کرنا، بزنس پلان نہ بنانا</li> <li>- کاروباری تحفظ کے لیے قانونی کارروائی نہ کرنا</li> <li>- کاروباری معاهدے نہ کرنا، خاندانی بزنس میں شرکت کے اصول اور قاعدے طلب نہ کرنا</li> <li>- کاروباری وعدے پورے نہ کرنا</li> </ul>
	<h3>سماجی کارکن / رہنماء</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>- سماج اور فلاحی کام کو اپنی عزت، شہرت اور دولت کا ذریعہ بنانا</li> <li>- صرف اٹھ پر آنا اور فیلڈ کا کام نہ کرنا</li> <li>- حسابات صحیح طرح سے نہ بنانا</li> <li>- اثاثے اور سائل کا غلط استعمال کرنا</li> <li>- ملاقاتوں اور تعلقات بڑھانے ہی میں وقت صرف کرنا</li> </ul>
	<h3>داعیان دین</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وفتروں میں زیادہ وقت لگانا</li> <li>- ضرورت سے زیادہ سونا</li> <li>- اپنے آپ کو بزرگ اور دیندار سمجھ کر خدمتِ الناس کے کام نہ کرنا</li> <li>- خود پسندی کے باعث اور عجب (برتری کے احساس) کی وجہ سے لوگوں سے خواخواہ کے اختلافات اور جھگڑے کرنا</li> </ul>
	<h3>عام افراد</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت نہ جاننا</li> <li>- اخبارات، ٹی وی، کرکٹ اور دیگر امور جیسے ہر تالوں اور سیاسی معاملات پر طویل گفتگو کرنا</li> <li>- بات بات پر اپنی ادا کی خاطر لڑنا، جھگڑنا</li> </ul>

## تساہل کے معاملے میں آپ کے عذرات

- ہم تساہل کے معاملے میں اپنے آپ کو مندرجہ ذیل عذرات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو پھر بھی حق پر سمجھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں:
- ”کام کرنے کے لیے مناسب ساز و سامان نہیں ہے۔ تحریری کام تو عموماً نیلے رنگ کی روشنائی سے کرتے ہیں۔ میرے پاس تو سیاہ روشنائی کا قلم تھا۔ اس لیے کام نہیں ہو سکا۔“
  - ”منی بس میں تو جانوروں کی طرح بٹھاتے ہیں جب کہ رکشا ٹکسی کی ہڑتال تھی۔ اس لیے کام نہیں ہو سکا۔“
  - ”کافی دیر سے کام کر رہا ہوں بس اب آرام کی ضرورت ہے۔“
  - ”تو مت محکم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔“
  - ”یہ تو ہفتے کے آخری ایام ہیں اب اس ہفتے میں کام کی ابتداء کیا فائدہ!“
  - ”پوچھا کیوں جائے حالاں کے جواب تو ہمیں پتا ہے ”نہ“ ہی میں ہو گا۔“
- دو چھوٹے سے واقعات ہیں جن سے تساہل سے گریز کرنے والے ذمے دار افراد کا کردار سامنے آتا ہے:

دفتر میں شام کے اوقات میں اچانک ٹیلی فون کا ایک پیغام تحریر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ صاحب پنسل یا قلم ڈھونڈتے رہے۔ نہیں ملی۔ اب وہ پیغام من کر یادداشت کے ذریعے دوسرے روز کہہ سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تاپخت کی میز پر کاربن پٹا ہوا تھا۔ روڈی کی ٹوکری سے کاغذ اٹھایا اور ماچس کی تیلی یا کسی نوکیلی چیز سے کاربن پر تحریر کیا جس کا اثر کاغذ پر آ گیا۔ درحقیقت یہ ذہانت، احساس فمہ داری اور تساہل سے گریز کی علامت ہے۔

ایک صاحب اپنے نئے فلیٹ میں منتقل ہوئے۔ دوسرے روز صبح سوریے اخبار والے نے

دروازے پر دستک دی:

”آپ اخبار میں گے۔“

ان صاحب نے اخبار والے سے پوچھا: ”آپ کو پتا کیسے چلا کہ ہم رہنے کے لیے آگئے ہیں۔“

ہا کرنے جواب دیا: ”آپ کی بائñی میں کچھے لٹک رہے تھے۔“

ان صاحب کو اس کے احساس کی قدر ہوئی اور اخبار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اخبار والا یہ بھی کر سکتا تھا کہ آج تو پہلا ہی دن ہے ”کل“ پوچھ لیں گے۔ نئے نئے آئے ہیں تھکھے ہوئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اخبار کا سلسلہ کسی اور ہاکر سے شروع ہو جاتا اور وہ ہاکر ایک موقع ضائع کر دیتا۔

## تساہل سے گریز کی چند صورتیں

ہمارے یہاں یقیناً اس کردار کی کمی نہیں ہے لیکن ایسے کردار بہت کم ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں

تساہل سے گریز کی چند مزید صورتیں اور روایے یہ ہیں:

- ”ممکن ہے کہ کام کے اچھے نتائج نہ ہوں۔ مگر ذمہ داری دی گئی ہے لہذا پورا کر لیا جائے۔ کل کا انتظار کیوں کروں، آج ہی کروں۔“

- ”آج تو بہت تھکا ہوا ہوں۔ بس آدھے گھنٹے تک یہ کام کر کے اچھی نیند کر لوں گا۔“

- ”اوہ! آج تو ٹوٹی وی پر میری پسند کا پروگرام ہے۔ ابھی پندرہ منٹ ہیں۔ پھر پانچ منٹ کے اشتہار۔ چلو ان میں منشوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ لالوں۔“

- ”کام کے لیے ساز و سامان نہیں۔ دیکھیں کسی اور ترکیب سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔“

- ”آج تو ہفتے کا آخری دن ہے۔ اب یہ کام اس ہفتے میں تو نہیں ہوتا۔ چلیں ابتدا تو کر لیں۔“

## ستی اور کاملی کی وجوہات

ہم تساہل کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے اجتماعی مزاج میں تساہل کی وجوہات اور عناصر کے

جانزے کی ضرورت ہے۔ ذیل میں ایک تجزیہ کیا گیا ہے۔ جن اشارات سے آپ متقن ہیں ان پر صحیح (✓) کا نشان لگادیں۔

### ترجیحات کے شعور کی کمی

ہمارے عمومی کام جو بعض وجوہات کی بنا پر فوری نوعیت کے ہو جاتے ہیں جن کے باعث ہمارے اہم کام متأثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ترجیحات متعین کرنے کا شعور نہیں ہے۔

### ناکامی کا خوف

تسابیل کی ایک بہت بڑی وجہنا کامی کا خوف ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کے خوف سے اپنے اہم امور کوٹا لتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کسی طالب علم نے یہ سوچ لیا ہو کہ اسے میرٹ کے امتحان میں پہلی پوزیشن لینی ہے۔ بس یہ خوف کہ وہ امتحان کی ایسی تیاری نہیں کر سکا، لہذا پہلی پوزیشن نہیں آ سکتی۔ نتیجتاً وہ امتحان ہی نہ دے۔ یہ خوف تو ہمیں تباہ کر دے گا۔ زندگی ایک عظیم مقابلہ ہے جس میں کروڑوں افراد ہم سے بہتر ہیں اور ہم کروڑوں افراد سے بہتر ہیں۔ مقابلے سے فرار کیوں اختیار کریں۔ اتنی تو جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ کامیاب فرد کو مبارکباد دے دیں۔ پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔

### اپنے بارے میں اعلیٰ تصور

اپنے بارے میں بہت اعلیٰ تصور قائم کر لینا اور کام اس لحاظ سے ملتوی کرنا کہ وہ اس اعلیٰ تصور کے مطابق نہیں ہے۔

### غلطیوں سے مبررا سمجھنا

اپنے آپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھنا اور غلطیوں سے مبررا محسوس کرنا۔ بغیر غلطیوں کے کام کرنے کا عزم رکھنا۔ اس صورت میں آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔

### خود کو ناگزیر سمجھنا

ہم ہر کام خود کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناگزیر ہیں۔ جب تک کام خود نہیں کریں گے، کام نہیں ہوگا۔ یہ تصور غلط ہے۔ ہمیں اپنے ماتحت افراد کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم اپنے اداروں کے معاملے میں

اداروں اور اپنے ساتھیوں کے مقولیں ہیں۔ تربیت ہی یہ قرض ادا کر سکتی ہے۔

### **□ اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونا اور غصہ کرنا**

غضہ اور ناراضگی کا انہمار پشمیانی پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم احساسِ ندامت کے باعث کم از کم اس دن اور اس فرد کے لیے کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔

### **□ مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی**

صلاحیتوں کی کمی بھی تسلیل پیدا کرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور ادارے کی ضروریات میں توازن ہونا چاہیے۔

### **□ پہیہ اپنے طور پر ایجاد نہ کیجیے**

جب بہیہ ایجاد ہو چکا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے طور پر پہیے کو بنانے کے لیے تحقیق میں وقت صرف مت کیجیے۔ جو کام ہو چکے ہیں، انہیں ردمت کیجیے بلکہ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سبقت لیجیے اور تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔

### **□ ذندگی اور موت کے معاملے میں صحیح تصور کا نہ ہونا**

تسالی کی بہت بڑی وجہ جس کا شعور ہو جائے تو ہم اس عادت کا علاج بھی کر سکیں گے، وہ زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور ہے۔ وقت ہی کو زندگی سمجھنا اور اس معاملے میں خوف خدا رکھنا اور آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھنا کہ یقیناً ہم سے ہمارے وقت کا، ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے مال و دولت کا، ہمارے اہل و عیال کا ضرور سوال ہو گا۔ اس احساس کے ساتھ دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔

## علاج، حقوق، احساس اور مشورے

### چند حقوق

کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کا مختصِ ارادہ کیا ہوا ہو اور مکمل منصوبہ بندی بھی کر لی ہو مگر عمل درآمد میں تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے کسی اور فرد نے یہ کام آپ سے پہلے کر لیا ہو۔ نتیجًا آپ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے ہوں اور دوسرے افراد ترقی کر گئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کا کاروبار شروع ہوا تو اس کی ابتداء کرنے والے کسی وجہ سے اپنے حقوق سرکاری ادارے میں رجسٹرنے کر اسکے۔ کسی اور صاحب نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے نام وہی پیشہ کیا جس کو قانونی نوٹس دے دیا۔ اصل مالکان نے لاکھ کوشش کی اور پیشہ کی مگر دعوے دار نہیں مانے اور اصل مالکان کو اپنی پروڈکٹ بند کرنی پڑی۔ گوک دعوے دار نے ظلم کیا مگر اصل مالکان کو اپنی کابلی کی سزا ملی۔ رجسٹریشن توکیل کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی مگر یہ تو تسابل تھا جس کے باعث اصل مالکان کو اتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہم اپنی کابلی اور سستی یا ثالنے کی عادت کے باعث زندگی میں مالی نقصان اٹھاتے ہیں، دوستوں اور خیرخواہوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، افسران کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اعتقاد اور عزت کھو دیتے ہیں، اہل خاندان اور رشتے داروں کے ساتھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، حادثات اور تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اہل خانہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور خود ان تمام واقعات کے باعث ایک نکست خوردہ شخصیت بن جاتے ہیں۔

اسی تساؤل کے باعث ہم زندگی کے معمولی کاموں کو جن کے لیے عام طور پر صرف پانچ منٹ کافی ہوتے ہیں۔ برسوں تالے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہم معاملات میں ان چھوٹے کاموں کی جانب بے تو جبی، بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر لیتا ہے اور انتہائی اہم امور سے فرار کے لیے ہزاروں بہانے تلاش کر لیتا ہے۔

### شخصی عناصر جن کے باعث ہم مست اور کاہل ہوتے ہیں

ستی اور کاہل ایک پیاری ہے اور انتہائی نقصان دہ نہ۔ اس کی وجوہات کو ایک بار پھر دھرا لیتے ہیں۔ زندگی کا نصب اعین متعین نہ ہونا اور متعین ہے تو شعوری انداز سے نہ لینا۔ زندگی کے بارے میں مقاصد کا واضح نہ ہونا، ترجیحات کا متعین نہ ہونا، اہم اور فوری امور کے بارے میں شعور کی کمی، اطمینان اور کارکردگی کے تصور کی کمی، ناکامی کا خوف، اپنی ذات کا حقیقت سے بلند تصور، عموماً بغیر غلطی کے فرشتوں کی طرح کام کرنے کا سوچتے رہنا، افراد اور متعلق لوگوں کو کام تفویض نہ کرنا اور نہ ہی ان کی تربیت کرنا، اور حالات اور ضروریات کے مطابق مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی اور ضعف ارادہ ہیں۔

یہ تساؤل، انسانی زندگی میں ماڈی طور پر تو نقصان دہ ہے، ہی مگر دین کے معاملے میں یہ تساؤل بعض اوقات ناقص کی حدود تک لے جاتا ہے۔ نمازوں کے معاملے میں تساؤل تو منافقوں کی علامات میں سے ایک ہے۔

تساؤل ایسا مرض ہے جس کا علاج محض تصور کرنے سے نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ نفس کے خلاف ایک جہاد ہے جو کرنا ہوگا۔

بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گرمara

جاائزہ لیجیے

ذرا اپنا جائزہ لیجیے کہ ماضی میں آپ کتنا وقت صرف فرصت و فراغت کے، اور حالات کی درستی

کے انتظار میں گزارتے رہے ہیں۔ ایک فہرست بنائیے کہ آج آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور اب تک کیا کچھ حاصل کر پچکے ہیں۔ جو حاصل نہیں کر سکے اس کی قبل قبول وجوہات تھیں یا محض اپنی نفس پرستی، سستی، کامیابی اور خوف خدا کی کمی۔ تو پھر آئیے آج ہم اپنے نفس کو غفلت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سخت حساب کتاب کر لیں اور اپنے نفس اور ذہن و جسم کی حرکات و سکنات اور اس کے رجحانات پر کثری نگاہ رکھیں۔

امام ابن حوزی فرماتے ہیں ”جب بندہ صحیح کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فارغ کرے اور اپنے نفس سے شرائط کرے اور کہے: اے نفس! میرے پاس سرمایہ صرف زندگی ہے۔ اگر میرا یہ سرمایہ فنا ہو گیا تو تجارت اور منافع سے مایوسی ہو جائے گی۔ یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور میری موت کو موخر کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں تمبا کرتا کہ زندگی کی کچھ مہلت اور عطا کر دے تاکہ میں کوئی یہک عمل کر لوں۔ تو اے نفس! یہی سمجھ کر تو فوت ہو چکا ہے اور پھر تجھے واپس کیا گیا ہے۔ اس دن کو ضائع کرنے سے بچ جا اور جان لے کہ دن رات میں چوبیں گھٹنے ہیں اور یوں سمجھ لے کہ بندے کے لیے ہر روز چوبیں الماریاں قطار در قطار رکھی ہیں۔ قیامت کے دن یہ الماریاں کھولی جائیں گی اور اللہ ہر گھنٹے میں کمائی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا۔ اگر یہ نیکیوں کے نور سے بھری ہوں گی تو اسے اتنی خوشی ہو گی کہ اگر وہ دوزخیوں پر تقسیم کی جائے تو جیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس نہ رہے۔ اگر بد قسمتی سے صورت حال دوسری ہوئی یعنی کوئی شخص نیکیوں کی بجائے برائیوں میں پھنسا رہا، تو نور کی جگہ اندر ہو گا اور تعفن پھیلے گا اور وہ گھنٹہ جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو گی، اسے عذاب الیم سے ہمکنار کر دے گا۔ اسے اتنی کبر اہم اور ذلت محسوس ہو گی کہ اگر وہ تمام جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتیں مکدر ہو جائیں۔

عمل لوگوں کے لیے ایک اور خزانہ کھولا جائے گا جو خالی ہو گا۔ نہ اس میں کوئی خوشی کی بات ہو گی، نہ غمی کی۔ یہ وہ گھنٹہ ہو گا جس میں یہ لوگ سوئے رہے تھے (یعنی وقت ضائع کر رہے تھے)۔ ان میں سے ہر شخص اس کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا اور اسے ایسا دکھ ہو گا جیسا کہ اس آدمی کو جو بہت سا منافع حاصل کرنے پر قادر تھا لیکن موقع ضائع کر کے اس سے محروم ہو گیا۔

ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے: ”آج کے دن کوشش کر کے ہر اماری کو نیک اعمال سے بھر، ایک کو بھی خالی نہ چھوڑ۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے علیین کے درجات ضائع ہو جائیں اور دوسرے ان کو حاصل کر لیں۔“

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے گک جائے اور اللہ سے بھلانی کی امید رکھے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرو اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تو لو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ سورۃ الحاقة میں ہے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی۔ (منہاج القاصدین)۔

### جاائزہ اور خود احتسابی

#### سوالنامہ

اگلے صفحات پر دیے گئے چارٹ میں چند سوالات درج ہیں۔ ان کے جوابات کے کوئی نمبر نہیں ہیں مگر ان کے جوابات خود آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ درحقیقت ان سوالات کے جواب ہی سستی اور کابھی کے مرض پر پہلا حملہ ہے۔

## چارٹ-6

## جائزو اور خود احتسابی

شار	سوال	جواب
1	میں کاموں میں مصروف ہوں جن میں مجھے سرے سے مصروف ہونے اور وقت دینے کی ضرورت نہیں تھی؟	
2	میں وہ کون سے کام کر رہا / کر رہی ہوں جو مجھ سے بہتر دوسرے افراد کرتے ہیں؟	
3	کیا میں اپنے کاموں اور معاملات کی صحیح ترجیحات مقرر کر رہا / کر رہی ہوں؟	
4	اس وقت میرے وقت کا صحیح مصرف اور بہترین استعمال کیا ہے؟	
5	مجھے اپنا وقت کہاں صرف کرنا چاہیے؟	
6	میرے اہم اور بڑے بڑے تضییع اوقات کیا ہیں؟	
7	اپنے اوقات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا / سکتی ہوں؟	
8	کیا آج کے دن کے معمولات انجام دینا میرے کنٹرول میں ہے؟	

	کیا میرے پاس روز کے کرنے کے کام اور ان کی ترجیحات تحریر موجود ہیں؟	9
	کیا میرے پاس ڈائری ہے اور اس میں روز کی منصوبہ بندی اور کارکردگی تحریر کرتا / کرتی ہوں؟	10
	کیا میں ان کاموں کو ترک کرتا / کرتی ہوں، نالہ / نالی ہوں جو مجھے پسند نہیں ہیں؟	11
	کیا میں توجہ بٹانے والی باتوں اور غیر ضروری تقاضوں کے باعث تک ہو جاتا / ہو جاتی ہوں؟	12
	کیا لوگ مجھے انتظار کرتے ہیں اور میں بھی لوگوں کو انتظار کر اتا / کرتی ہوں؟	13
	کیا وقت کے معمولات اور معاملات کے باعث میری سماجی اور گھر بیو زندگی متأثر ہوتی ہے؟	14
	کیا میں اپنی ذات کی بہتری اور ترقی کے لیے مناسب وقت نکالتا / نکلتی ہوں؟	15

## پہلی فہرست

آپ اپنی ذات کے ساتھ محبت اور دوستی اور اپنے ضمیر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایک فہرست تو بنائیے جس میں مندرجہ ذیل امور کے بارے میں آپ کی کاملی اور سنتی کی عادتیں اور صورتیں درج ہوں:

- اللہ تعالیٰ اور سنت رسولؐ کی پیروی
- حقوق العباد
- آخرت کی تیاری
- اپنی رعیت یعنی اہل خانہ، یہوی بچے
- والدین، رشتہ دار اور پڑوی
- دوست احباب اور کاروباری، دفتری ساختی
- گھر یا امور
- مالی امور
- اپنی ذات

اب اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ مگر برق رفتاری اور چھلانگیں لگا کرنیں، اپنی طبیعت اور مزاج اور عادات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کے کام تحریر کیجئے۔ آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے مرحلے میں تبدیلی لائیے۔

## دوسری فہرست

اس کے علاوہ حاضر اپنی تربیت کے لیے ایک اور فہرست بنائیے۔ تہذیب، ارادوں اور اس پر عمل پیرا ہونا اور نتائج پر اظہار کرنا زندگی کا ایک بہت بڑا مصروف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آپ کو دس سال تک زندگی مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے۔ یقیناً فہرست بنائیں گے۔ ہر سال کے لیے ایک کالم بنانا کر طے کریں کہ یہ امور ان برسوں میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ پچاس، ساٹھا امور کی فہرست بڑی آسانی کے ساتھ بنالیں گے۔

## تیسرا فہرست

اب اس سوچ کی طرف آئیے کہ کسی نہ معلوم وجہ سے آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات قبر میں گزارنی ہے۔ اب وہ فہرست بنائیے کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔

## لمحوں کی سستی، صدیوں کی سزا—ایک سبق آموز واقعہ

12 مارچ 1881ء کو زارروس نے ایک اعلامی پر دستخط کیے جس میں اس خواہش کا اظہار تھا کہ دستوری طرز حکومت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ اس کے دوسرے دن، جب اس اعلامی کا سرکاری اعلان بھی نہیں ہو پایا تھا، زارروس کو قتل کر دیا گیا۔

### میں جاہی ڈھونڈتا، تیری محفل میں رہ گیا

ہمارے کتنے احباب اور رشتے دار بیماری کی حالت میں اپتال میں زیر علاج ہوتے ہیں اور ہم عیادت کے لیے ٹال مٹول کرنے کے باعث ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو تم سوچ اور منصوبہ بندی کی حد تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں گر عمل کے معاملے میں ہم کل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد کام کریں گے مگر اس آرام میں صبح ہو جاتی ہے اور کتنے دن ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شام جلد گھر پہنچ کر یہ کام کر لیں گے مگر سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہ شام رات میں اور رات سحر میں ڈھلن جاتی ہے۔

بس اس انتظار کے سورج تلے زندگی کی چھاؤں پتی رہتی ہے اور اپنی اس عادت کے باعث تکالیف اور الجھنوں میں پتلا رہتے ہیں۔

ہم زندگی کے اکثر معاملات میں کامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ عہد جوانی میں حصول تعلیم، امتحان کی تیاری اور کیریئر کی منصوبہ بندی میں، آگے چل کر چینہجہر کو قبول کرنے کے معاملے میں، پھر میدان عمل میں اپنے جوہر اور کارکردگی کے اظہار کے معاملے میں۔ انسانی معاملات میں، اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے معاملے میں، غرض مجموعی طور پر پوری زندگی میں تسلیل کا شکار رہتے ہیں۔ ہم چاہے کسی پیشے سے متعلق ہوں، ہمارا اپنا مخصوص تسلیل ہوگا۔ بقول آتش

آئے بھی لوگ، بیٹھے بھی، اٹھ کر بھی چل دیے

میں جاہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا

تسلیل کی یہ غلطی آخري عمر میں آپ کو احساس دلائے گی کہ یع

لمحوں نے غلطی کی، صدیوں نے سزا پائی

## تقابلي جائزہ

يقين جانئے یہ دونوں (دوسري اور تيسري) فہرستیں موازنے کے قابل ہی نہیں ہوں گی۔ ایک فہرست طول اہل یعنی خواہشات سے بھری ہوئی اور دوسرا فہرست موت کی تیاری سے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ ان دونوں فہرستوں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے کوئی ایسی فہرست بنائیں جس میں آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا سامان تیار کر سکیں؟

## ایک حدیث کا مطالعہ

اس جائزہ کے بعد اس حدیث پر غور کیجیے:

حضرت جابرؓ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں اپنی امت پر جن بلاوں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوئی اور طول اہل ہے۔ (ہوئی سے مراد ہے دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے روحانیات اور خیالات کی پیروی کی جائے اور طول اہل یہ ہے کہ دینوی زندگی کے بارے میں لبی آرزوں کی دل میں پرورش کی جائے)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو، بہت زیادہ خوف ناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ ہوئی تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے (یعنی اپنے نفسانی روحانیات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور ابتداء ہدایت سے محروم رہتا ہے) اور طول اہل (یعنی لبی آرزوں میں دل کا پھنس جانا) آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) یہ دنیا م بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے (کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں) اور آخرت (ادھر سے) چل پڑی ہے، چلی آرہی ہے اور ان دونوں کے بچے ہیں (یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے) بس اے لوگو! اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چھٹے والے اس کے بچے نہ بنو (بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو) تم اس وقت دارالعمل میں ہو (یہاں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے) اور یہاں حساب اور جزا و سزا نہیں ہے اور کل تم (یہاں سے کوچ کر کے) دارالآخرت

میں پہنچنے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا (بلکہ بیہاں کے اعمال کا حساب ہوگا) اور ہر شخص اپنے کیے کابدله پائے گا۔ (تبہقی۔ معارف الحدیث)

### فضول اور لایعنی، لغو باتوں اور کاموں سے دور رہیے

ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم خود کو فضول اور لایعنی باتوں اور مشغولیات سے بچائیں۔ اللہ سے ڈریں کہ اللہ کا خوف اور تقویٰ، حکمت کا سرچشمہ ہے۔ موت کو یاد رکھیں کہ وہی آخرت کے سفر کی ابتداء ہے۔ زندگی سے کیا لے جائیں گے، چند گز کفن کا کپڑا۔

ہر شخص عدم سے تن عریاں لے کر

شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے

اور موت کے بعد ہماری آرام گاہ کتنی ہوگی۔ 2 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی۔ بس یہی اس دنیا کی یاد ہیں۔ اصل جواب تو آخرت میں دینا ہے۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟

### قرآنی احکامات

اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

”اور آپ میرے بندوں سے فرمادیجیے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو (اس میں کسی کی دل آزادی نہ ہوتی ہو) کیوں کہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں اڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“ (بنی اسرائیل)

”اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بے کار، لایعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔“ (مومنون)

”وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔“ (فرقان)

”اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔“ (قصص)

### احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

– آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ (ترمذی)

- حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ دے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتائی ہے جسے مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ ”اس کو اپنے قابو میں رکھو“ (طبرانی)

- حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر حرم فرمائیں جو اچھی بات کرے اور دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ (بیہقی)

- حضرت مخیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرا زیادہ سوالات کرنا۔ (بخاری)

- حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصیتیں ہو سکتی ہیں (خواہ اچھی ہوں یا بری) البتہ خیانت اور جھوٹ کی (بری) عادت نہیں ہو سکتی۔ (مسند احمد)

- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آدمی کے گناہ کا رہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔

(ابوداؤد)

### اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے

اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کا آج اچھا، خوشنگوار اور گزشتہ کل سے بہتر ہو اور آپ کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ ہر آنے والا ملحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہو اور ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من المستوی یو ماہ فهو مغبون

توہ شخص تباہ ہو گیا جس کے دو دن کا رکرداری کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: [www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)**

اس حدیث کو ایک گراف کے ذریعے اگلے صفحے پر سمجھایا گیا ہے۔ اس میں عمودی لکیروں (vertical line) کے ذریعے کارکردگی کو تصوراتی نمبر دیئے گئے ہیں جبکہ افقی لکیروں (horizontal Line) کو ایک ہفتہ کی مدت کی لائن بنایا گیا ہے۔ پھر دو خطوط کے ذریعے فلاج اور تباہی کی علامات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انگریزی میں کسی نے اس بات کو اس طرح کہا ہے:

If you are as good as you were yesterday,  
you will not be good for tomorrow.

اے لوگو

انہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریص بنو

اور اپنی کوشش بھر جہنم سے بچنے کی فکر کرو

کیونکہ

جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا

اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا

(حدیث)

جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے۔ وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ اللہ کا سوداستا نہیں ہے۔ بہت مہماں گا اور قیمتی ہے۔ یاد رکھو۔ اللہ کا سودا جنت ہے۔  
(حدیث۔ ترمذی)


### نعمتوں کو غنیمت سمجھئے

- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تدرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور فقر سے پہلے مالداری کو۔

- امام ترمذیؓ نے کتاب الزہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ ”نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک صحت اور دوسرا فراغت۔“

### کار کردگی ناپنے کا گراف

تباه ہو گیا وہ شخص جس کے دون کار کردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔



## ایکشن پلان: تجاویز

### صحح و شام، پلانگ اور اخساب

صحح و شام چند لمحات نکالیے جس میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے اور اپنی نیت کا جائزہ لیجیے۔ منہاج القاصدین میں علامہ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شبلی، ابوالحسین نوری کے پاس گئے۔ وہ بالکل ساکن بیٹھے تھے۔ شبلی نے ان سے پوچھا: ”آپ نے یہ مرابتہ اور سکون کس سے سیکھا ہے؟“ کہا ”اپنی ملنی سے سیکھا ہے۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو اپنے آپ کو اس طرح ساکن کر لیتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا۔“ بس صحح و شام میں چند لمحات نکال کر ذہنی و جسمانی طور پر اپنے آپ کو مرکوز کر لیجیے۔ اس فقہ کا جائزہ یقیناً مفید ہو گا۔ اپنے تسلیم کو آہستہ آہستہ ختم کیجیے۔

ایک غزوہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آگے بیٹھے تھے اور متنی پر اپنی آنکشہ مبارک سے کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ حدیث دفاع کے مصنف، میجر اکبر خاں کے مطابق درحقیقت یہ جنگی پلان تیار ہو رہا تھا۔ زندگی کے ہر معاملے میں پہلے سے سوچنا اور اس کی منصوبہ بنندی کرنا نہ صرف حکمت کا حصہ بلکہ سنت نبوی ہے۔ ہم ایک موزی مرض اور نقصان دہ عادت سے اپنی شخصیت کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً ہمیں اس کے لیے منصوبہ بنندی کرنی ہو گی۔

انگریزی میں کہتے ہیں کہ

”If you fail to plan, you are planning to fail.“

منصوبہ بنندی کے حوالے سے چند اشارات یہ ہیں:

- اپنے کاموں کی مناسب منصوبہ بندی کیجیے۔
- یوں میں اور ہفتہ وار مقاصد (goals) متعین کیجیے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
- منصوبہ بندی پر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وقت گانے سے عملاً کام کرنے کے لیے وقت نبتاب کم دینا پڑتا ہے۔
- جتنی بھی مصروفیات ہوں، اپنے کرنے کے کاموں کی فہرست ضرور بنائیجیے۔
- روزانہ کے کاموں کا ایک شیڈول بنائیے اور اس میں ترجیحات متعین کیجیے۔
- ان ترجیحی کاموں کو کرنے کے لیے ایکشن لسٹ (Action List) بھی بنائیے۔
- جو کام آپ نہیں کر سکتے یا وہ افراد جو آپ کے مقاصد کے حصول میں حائل ہوتے ہیں یا وہ افراد جو کسی وجہ سے آپ کے کاموں کو متأثر کر رہے ہیں، ان کاموں اور افراد سے شائقی کے ساتھ مغدرت کرنے کی کوشش کیجیے۔

## واضح مقصد اور حصوں میں تقسیم

جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ واضح ہو گر اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے کر لیں۔ جیسے چھٹی کے دن کے لیے آپ نے طے کیا کہ میز اور الماریوں کی صفائی کرنی ہے۔ یہ کام دو پہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ختم ہونا ہے۔ تو پہلے آپ اندازہ کیجیے کہ تنا کام ہے، میز اور الماریاں دونوں الگ الگ نوعیت کے کام ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا گھنٹہ درکار ہیں۔ پھر میز کے کاغذات کی کیسے تقسیم کرنی ہے۔ فرض کیجیے چار مختلف حصوں میں۔ اس کے بعد صفائی کرنی ہے، جراشیم کش دوا چھپر کنی ہے اور کاغذات کو متعلقہ فالکوں میں لگانا ہے۔ اسی انداز سے الماریوں کی صفائی کا کام ہے۔ پہلے تو اس کی ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد کپڑوں کی نئی ترتیب اور فاضل اور پرانے کپڑوں کو نکلنے کے بارے سوچیے۔ پھر کام کی تقسیم۔ الماری سے سامان نکالنا، گرد صاف کرنا، دوائیں چھپر کنا، کپڑے الگ الگ کرنا اور ترتیب سے رکھنا۔ اس قسم کے کاموں میں گھر کے افراد اور بچوں سے بھر پور تعاون بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

## توازن، تو اتر و تسلسل

جو کام بھی کریں، اس میں توازن، تو اتر اور تسلسل ضرور برقرار رکھیے۔ کسی چھوٹی سی کامیابی کے بعد خرگوش کی طرح مطمئن مت ہو جائیے ورنہ کچھواپنے مسلسل عمل سے آگے نکل جائے گا۔ روز کا کام توازن اور اعتدال کے ساتھ کیجیے۔

## حقیقت پسندی

اپنے حالات میں حقیقت پسند نہیں۔ کامیابی کا احساس ضرور رکھیے اور کامیابی کے تصور کو بھی واضح رکھیے۔ دنیا بہت ہی زیادہ جمع کرنے کی نہ تو فکر کیجیے اور نہ ہی کوشش۔ حسب ضرورت اگر مل جاتا ہے اور اس میں مستقبل کی کفالت کے لیے چلت ہو جاتی ہے تو بہتر ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر افراد کو دیکھیے۔ دین، علم اور فہم کے معاملے میں اپنے سے بہتر افراد کو دیکھیے۔ دنیا کے لائق کوں کیجیے۔ اپنے اوپر امانتوں اور ذمے داریوں کے بوجھ کو مت بڑھایے۔

واقعات معراج الہبی میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتی ہے۔ پوچھا: یہ کون حق ہے؟، کہا گیا: ”یہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمے داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھانے سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا باراپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔“

مشہور ماہر انتظامیات، پیٹرڈر کی تجویز ہے کہ اپنے کاموں اور معاملات کی فہرست کم کیجیے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی آنا کی غیر ضروری تیکین کے لیے اپنی ہمت اور قوت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اپنے اوپر پہلی امانتوں کی طرح بوجھ نہ ڈالنے کی دعا کی گئی ہے۔

## ادھورے کام اور ترجیحات


اپنے غیر مکمل کاموں اور ارادوں کی فہرست تیار کیجیے اور پھر ترجیحات متعین کیجیے، کرنے کے کام اور نہ کرنے کا کام۔ خود فصلہ کیجیے کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے۔

## ڈیل لائے

ہر کام کے لیے مدت کی حدود معین کیجیے۔ وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے جس کے لیے آپ نے ٹارگٹ اور ڈیل لائے مقرر نہیں کی۔ کام کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھیے کہ کتنا وقت در کار ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ جو کام اور تحریر ہم امتحان کے تین گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ عام دنوں میں تین دنوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان میں ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ اور حدود معین کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس حد اور دباؤ کے باعث اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ کام سے پہلے مقصد اور منزل کا تعین کر لیں اور پھر اس کام کو کرنے کی حدود اور وقت بھی معین کر لیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہو گا۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کام کی اپنی فطرت ہے اور وہ مہیا وقت میں کیا جاسکتا ہے۔ جتنا مہیا وقت آپ اسے فراہم کریں گے اتنا ہی وہ پھیلتا جائے گا۔ ذیل کے چارٹ سے آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا۔

شکل نمبر 1



ایک ہی کام کرنے کے لیے آپ حتیٰ حدود معین کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے اس میں وہ ہو سکتا ہے۔ اپنی شخصیت، کام معمول بنائیے کہ روزانہ تین اہم کام کرنے ہیں، بلکہ روزانہ کی فہرست کے تحت تین اہم کاموں کو آپ ترتیبی نمبر دے دیں اور انہیں ہر صورت میں کرنے کی کوشش کریں۔ پھر روزانہ ایک نیکی اور بھلائی کرنے کی ضرورت کوشش کیجیے۔ کسی انسان کے کام آ جائیے، کسی کا دل خوش کر دیجیے۔

## ترجیحات، امور کی تقسیم اور تفویض امور


ہم اپنے فریضے سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے دفتر کے ماتحتیوں اور ماتحت افراد کو تیار نہ کر لیں۔ اپنی شخصیت میں جرأت پیدا کیجیے۔ دوسروں کو کام تفویض کیجیے اور انہیں سکھائیے مگر

کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ فرنٹ میں اور کاروبار میں جن جن لوگوں میں سستی و کامیلی ہو، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے بہتر طریقے سے، حفظ مرابت اور عزت نفس کو لمحہ لڑ کھٹے ہوئے۔ اس معاملے میں گھنٹگلو کیجیے۔ اپنی خصیت میں افراد کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ امور کی تقسیم اور تقویض کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے کاموں کی فہرست بنائیے۔ یہ عموماً بے ترتیب سی فہرست بنے گی۔ اگر اس کو کوئی شکل دینا چاہیں تو اس انداز کی بنے گی۔ واضح رہے کہ آپ کی فہرست تو اور پر سے نیچے بنے گی، مگر شکل ایسی ہوگی۔

## مثال

شکل نمبر 2 آپ کے لیے

0xx✓✓xx0xx✓✓xxp x0xx✓✓
✓p x0xp ✓✓xx0xx✓✓xx0x
0xx✓✓xx0p x✓✓xxx✓✓xx
0xp ✓✓xx0xx✓✓xp xx0xx✓
✓xx0xx✓p xx0xx✓✓xx0x
0p x✓✓xx0xx✓✓xxx✓✓xx
0xx✓✓xx0xx✓✓xp x✓✓xx
✓xx0p x✓✓xx0xx✓✓xx0x



دوسرے مرحلے میں آپ اس ترتیب کو بدلت دیں۔

## مثال

شکل نمبر 3 آپ کے لیے

آپ کے فرانچ	❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
آپ کے واجبات اور دیگریاں	0000000000	xxxxxx
	0000000000	xxxxxx

آپ کے مستقبل  
سے متعلقدکام جو درود و  
کو دیے جائیں  
گیں

آپ کے مستقبل سے متعلق	
دکام جو درود و کو دیے جائیں گیں	

اب اسی چارٹ کو ایک اور شکل دے دیں اور اسے اہم اور ارجمند کے چارٹ میں تبدیل کر دیں۔

### شکل نمبر 4

اہم (Importnat)	غیر اہم (Not Important)
A	B/C
فوري (Urgent)	
غیر فوري (Not Urgent)	C/B
	D

A۔ جو امور اہم بھی ہیں اور فوري طور پر کرنے ہیں وہ آپ کی اولین ترجیح ہوں گے۔

B/C۔ یہ وہ امور ہیں جو نسبتاً کم اہم ہیں مگر آپ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں۔ ان امور کو منٹانے کے لیے آپ ان صلاحیتوں کو بڑھائیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔

C/B۔ جو امور اہم ہیں مگر آپ کے سر پر سوار نہیں ہیں وہ آپ کی دوسرا ترجیح ہوتے ہیں۔ مگر ترتیب کے لحاظ سے C میں آ جاتے ہیں۔ ان امور میں آپ کی ذات کی ترقی اور کامیابی، خاندانی تعلقات اور فلاج و بہبود شامل ہیں۔

D۔ یہ وہ امور ہیں جو نہ تو اہم ہیں اور نہ ہی فوري۔ اسے آپ نہ کریں بلکہ آپ تفویض کر دیں۔ واضح رہے کہ عمومی کاموں میں اپنے آپ کو مت تھکائیں۔ وقتیں اور صلاحیتیں زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہونی چاہئیں۔ اب اسی کام کو اگلے صفحے پر دیئے گئے فارم کو پُر کر کے کرنے کی کوشش کریں۔

**SWOT AND PRIORITY BASED PLANNER**

**S** Strength      **O** Opportunity  
**W** Weaknesses    **T** Threats

**Ranking (High-Low)****Importance 5, 4, 3, 2, 1****Urgency 5, 4, 3, 2, 1**

Date : \_\_\_\_\_  
**Priority a, b, c, d, e**

S. No.	To Do-Description of Work	S	W	O	T	Importance	Urgency	Priority	Action Plan	
									By	When

Make photocopies of this chart. Fill this form every week. Just note down what you want to do and then fill the remaining columns. Review your progress

**مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:** [www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

## الف: رویہ تبدیل کیجیے

ایک فرد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کو نالترہتا ہے اور ذمے دار یوں سے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرداگر اپنے رویہ کو تبدیل کر لے اور اپنی سوچ کو ثابت بنالے تو وہ بہترین انداز سے کام کر سکتا ہے۔

## چارت-8

### الف. سوچ کی تبدیلی

منفی سوچ اور الفاظ (کاہلی کی علامات)	ثبت سوچ اور الفاظ (متانج آور علامات)
1- اوہ۔ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، کرنا پڑے گا (شاید میری خواہش نہیں مگر میری مجبوری ہے)	1- یہ تو میرے کام کا حصہ ہے۔ بس اسے اس انداز سے اور اس وقت کر لیں گے۔
2- اوہ! مجھے تو یہ کام ختم کرنا ہے۔ (کام کو یا پڑھائی کو مصیبت سمجھنا)	2- مجھے اس کام کو جلدی شروع کر دینا چاہیے تاکہ آخر میں آرام مل جائے۔ کیوں نہ اسے آج سے شروع کر دیا جائے۔
3- یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ رکام ہے۔ نہ معلوم کب تین (100) کی جگہ دو (99) اعداد رہ جائیں گے۔ اسی انداز سے پہلا قدم اٹھائیں اور آگے بڑھتے رہیں گے۔	3- سودرخت لگانے ہیں۔ آج ایک لگائیں۔ پھر تو اس میں کوئی غلطی اور نقص نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس جیسا کام کوئی اور کر سکے
4- میرا کام اعلیٰ اور مکمل (Perfect) ہونا چاہیے کروں گا۔ کوشش میری طرف سے، اتمام اللہ کی طرف سے۔ وہ برکت دینے والا ہے۔	4- جتنے اچھے اور حسن طریقہ سے کام ممکن ہے وہ اور اس میں کوئی غلطی اور نقص نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس جیسا کام کوئی اور کر سکے
5- زندگی میں آرام و راحت اور کھیل کو داوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت تو نکالنا ہی ہوگا۔ زندگی، حقوق العباد کا حساب تو دینا ہے۔	5- میرے پاس آرام، تفریخ اور کھیل کو داوسروں کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ہے۔

## ب: دیگر تجویز

- بظاہر دنیا بہت مشکل ہے، آپ کو تھا دینے والی اور آپ میں احساسِ کمتری پیدا کرنے والی ہے۔ مگر آپ اپنے نیک مقاصد کے حصول کے لیے اپنی منفی سوچ کو ترک کر دیجیے۔ کوئی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں مکمل تیاری کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ پانی اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں نسبتاً زیادہ پانی ہے۔ موقع پائیے اور راستہ تلاش کیے۔
- جو کام کرنے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے اجزاء پر بھی تو جو دیجیے، سب ایک ساتھ کرنے کی خواہش مت رکھیے۔
- اپنے آپ کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیے کہ سنتی اور کاملی، تباہی اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہے اور باوجود یہ کہ یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی ہے، ہمیں اس بیماری یا عادت سے چھکارا حاصل کرنا ہے۔
- عموماً کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو صبح کے وقت اس انداز سے تیار کریں کہ آپ ایک موثر، مستعد، منظم اور مفید فرد ہیں اور آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے والے فرد ہیں۔
- جن چیزوں اور عادات کا سہارا لے کر آپ سنتی کرتے ہیں ان سے آپ اپنی ذات کو مشورے دے کر چھکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
- اپنے پاس نوٹ بک، ڈائری یا  $5 \times 13$  انج کے سائز کے کارڈز رکھیں اور کرنے کے کاموں میں ذہن کی بجائے قلم اور کاغذ کے حوالے کر دیں اور پھر انہیں کرنے کی کوشش کریں۔
- اپنے قابل اعتماد اور دلکش سکھ کے شریک دوستوں کا گروپ بنائیے اور مل کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بطور طالب علم اگر آپ انفرادی مطالعہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک یا چند دوستوں کے ساتھ مل کر گروپ اسٹڈی کا پروگرام بنائیں۔ اس کے ذریعے آپ مجبوراً مطالعہ کر لیں گے اور اس انداز سے دوسرے کام بھی ہوتے جائیں گے۔
- جو کام آپ عادتاً کر لیتے ہیں اور آپ کے معمول میں شامل ہیں، ان کاموں کے ساتھ اس کام کو نہیں کر دیں یا شرطیہ بنادیں جس میں آپ تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے شام کی واک سے پہلے دن منٹ کے لیے یہ کام کرلوں گا۔

- اپنے کرنے کے کاموں کی فہرست اپنے سامنے رکھیے۔ یاد ہانی کا طریقہ وضع کیجیے۔ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو اس قسم کے اسکرین سیور (screen saver) استعمال کیجیے جو آپ کو کام کرنے پر ابھاریں اور سستی اور کمال سے دور کر رہیں۔
- جن کاموں کے بارے میں آپ سستی کرتے ہیں انہیں کرنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کوشش کر کے کام کیجیے۔
- مشکل کاموں کو کریں تاکہ تصوراً تی اور عملی طور پر آپ کی آئندہ زندگی آسان اور خوشگوار ہو۔
- اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقت بھی دیجیے۔ جو عادتیں تبدیل ہو رہی ہیں ان پر اپنی ذات میں خوشنی بھی محسوس کیجیے۔

### ماحول کو سازگار بنائیے

اپنے ارڈر گرد کے ماحول کو اس انداز کا بنائیے کہ آپ کا کام کرنے کو دل چاہے۔ اگر آپ کو دفتر کا کام کرنا ہے تو دفتری ماحول، میز کی ترتیب اور ضروری فائلوں کی موجودگی ضروری ہے اور اگر آپ کھانا پکانے کے کام میں مصروف ہیں تو پھر ضروری ہے جو ڈش پکائی جا رہی ہے اس کے متعلق تمام ضروری چیزیں اور برتن بھی موجود ہوں۔ کسی بھی چیز کی غیر موجودگی افراطی پیدا کرے گی۔

اس حوالے سے چند اشارے پیش نظر رہنے چاہئیں:

- کام کرنے کی جگہ ترتیب کے ساتھ ہے اور مناسب ہے۔
- ضروری سامان، اوزار اور آلات موجود ہیں۔
- متذکرہ بالا چیزیں اور دیگر اسباب اس ترتیب سے رہیں کہ بوقت ضرورت مل سکیں۔
- کام کرنے کے لیے مناسب اور ضروری جگہ موجود ہے۔
- مناسب روشنی اور ہوا کا انتظام ہے۔ درجہ حرارت حسب ضرورت ہونا چاہیے۔
- شور و غل اور گرد و غبار تو پریشان نہیں کرے گا۔
- کاغذی کارروائی کرنے کے لیے مجھ میں مطلوب صلاحیت موجود ہے یا سیکھنی ہو گی؟
- یکسوئی کے لیے ماحول مناسب ہے یا نہیں؟

## وقتے اور انتظار کے لمحات

چھوٹے چھوٹے اوقات کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ایک دوست کھانے کی تیاری کے انتظار کے وقت میں اخبارات کے لیے مضامین تحریر کر لیتے ہیں۔ ایک اور دوست عموماً مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے بڑے بڑے شہروں کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے رابطہ، لاونچ کے انتظار کے وقت میں کر لیتے ہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو دوران پرواز ہی اپنی سرکاری میئنگنوں کی رووداد کشاون میں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کی سیکریٹری تحریر کر لیتی ہیں۔ ایک اور دوست ہیں جو دفتر اور گھر کے آمد و رفت کے اوقات میں دفتر کے کام، اہم ریپوورٹوں اور غیرہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور دوست نے ایک اہم امتحان اپنے گھر اور دفتر کے درمیان روزانہ کے معمول کے سفر کے وقت میں تیاری کر کے پاس کیا۔ دور حاضر میں پام ٹاپ اور لیپ ٹاپ نے بھرپور سہولتیں مہیا کی ہیں۔ ان پر سرمایہ کاری کیجیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن کے لیے یہ سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے وہ  $3 \times 5$  انچ کے کارڈز سے ابتداء کر سکتے ہیں۔

## بہترین اوقات اور یکسوئی

اپنے بہترین اوقات کا جائزہ لیجیے۔ جن اوقات میں آپ بہت مستعدی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بس ان اوقات میں انتہائی اہم کام کیجیے۔ یہ اوقات بعض حضرات کے لیے صبح کے ابتدائی چار گھنٹے ہوتے ہیں اور بعض کے دیگر۔ اس کے علاوہ اپنے کاموں کی فہرست میں ترتیب کو بدل بدل کر کرنے کی کوشش کیجیے اور جس ترتیب میں آپ زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کر سکیں، اس پر کار بندر ہیں۔ ”یکسوئی“ کے لصوموں کو مجھیے اور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مداخلتوں اور کام کے دوران آنے والی اُجھننوں سے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے۔ ٹیلی فون کو اپنے سے دور کیجیے۔ موبائل فون کو خاموش (silent) کر دیں۔ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ صبح کے اوقات کو متضائع کیجیے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیے اور اس کے بعد وقت کو بہتر طور پر استعمال کیجیے۔ فجر کے بعد سو کراس سنہری وقت کو ضائع نہ کریں، صبح کا سونا تنگ دستی لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان ہے

جا گئے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم جا گئے ہوئے بھی سوئے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بستر کی لذت سے باہر نکالیے۔ اپنے آپ کو حاجات سے فارغ کیجیے۔ اپنی شخصیت اور لباس کا خیال رکھیے اور مطالعے اور کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے اللہ۔ میری امت کے لیے صح  
کے اوقات میں برکت عطا فرماء۔“ (ترمذی)

### فرصت تو مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے

بھی بھی اچھے حالات کی توقع میں کام کو ملتا تو می مت کیجیے۔ اپنے فرائض کو کبھی بھی ملتا تو می مت کیجیے۔ اپنے عزم بلند رکھیے۔ ناکامی اور اندر ہیرے سے مت گھرا میں۔ ستارے اندر ہیرے ہی میں چکتے ہیں۔ بقول فرانس بیکن: ”میں نے دنیا کے عظیم انسانوں کو جھونپڑوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔“ ناکامی سے ما یوس مت ہوں۔ تیمور لنگ چیزوں کی بار بار ناکامی ہی سے کامیابی کے راز سے آشنا ہوا تھا۔

اپنے آپ سے کہیں کہ آپ اس پروجیکٹ پر صرف دس منٹ کام کریں گے اور جب کام شروع کر دیں اور کام پر لگ جائیں تو پھر آگے بڑھیں اور پھر بھی اٹھنا پڑے تب بھی آپ نے دس منٹ تو کام کر رہی لیا۔ انگریزی میں اسے سیلف پرسوائیشن (Self Persuasion) یا خود ترغیبی کہتے ہیں۔

اپنے مزاج کی اس انداز سے تربیت کیجیے کہ آپ کام وقت پر ختم کریں اور یہ آپ کے لیے کھیل بن جائے۔

جن چیزوں اور وسائل کے باعث آپ اپنے اصل کام کو چھوڑ کر دوسرا چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ان کو ترک کر دیں۔

- ذہن کو پر گنہ کرنے والی چیزیں ہٹا دیں،

- میگرین اور رسالوں کو چھپا دیں،

- لی وی بند کر دیں،
- چینگ (chatting) اور براوزر (browsing) کو فی الوقت چھوڑ دیں،
- کمرے کی کھڑکیوں پر پرده لگادیں تاکہ باہر کی چیزیں آپ کو متاثر نہ کریں،
- لوگوں سے انتقام نہ لیں اور معاف کر دیں ورنہ یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے،
- حسد، کینہ، غصہ، چخلی اور غمیت سے بجات حاصل کرنے یا کام کرنے کی کوشش بھیجئے،
- جس نوعیت کے کام کرنے ہیں اس علاقے میں رہیں۔ فون کرنا ہے تو ٹیلی فون کے پاس رہ کر فون کر دیں۔ موبائل ہے تو نمبر ساتھ رکھیں موبائل کی یادداشت میں محفوظ یا save کر لیں۔
- کام کو ختم کرنے کی عادت کریں۔

### حکیم لقمان کی ایک حکایت

حکیم لقمان کی حکایات میں ہے کہ ایک سور کسی درخت سے اپنی ڈاڑھ تیز کر رہا تھا۔ ایک لوہڑی وہاں آنکلی اور اس سے کہنے لگی۔ اے دوست کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ تم کس کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر رہے ہو۔ سور نے کہا۔ اے لوہڑی! تیری بات حق ہے لیکن فرصت کے وقت اپنے ہتھیار صاف اور تیز کر کے رکھنے چاہیں۔ اس لیے کہ لڑائی کے وقت فرصت ملے یانہ ملے۔ لڑائی کا کیا بھروسہ۔

The more you sweat in peace the less you bleed in war.

جو وقت ملا ہے اس سے بھر پوپراندہ اٹھائے اور اسے ابھی کرنے کی کوشش بھیجئے اور اگر یہ وقت ضائع کیا تو پھر کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔

### ہاں میں کوشش کروں گا

مشکل کاموں سے جی مت چرائیے اور انہیں ایک طرف مت رکھیے۔ چیلنج کا مقابلہ کرنا سیکھیے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت پیدا بھیجیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا مقولہ ہے: ”ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا: ہے کوئی جو میری جگہ لے۔ ٹھہماتے ہوئے دیے نے کہا: ہاں میں کوشش کروں گا۔“ کوشش ہماری متناع ہے۔ انسان پر حسن نیت کے ساتھ کوشش ہی فرض ہے۔ کسان بیج ڈال کر

زمین کی دیکھ بھال کی کوشش ہی کرتا ہے۔ بارش اور پیش کا انتظام تو انسانی وسائل سے مادر ہے۔ ایک بس کے پیچھے تحریر تھا: ”محنت تیری جا گیر ہے۔“ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جن کے پاس زمین اور جانیداد یہ نہ ہوں ان کی جا گیر تو محنت ہی ہے۔ لیکن محنت کے لیے بھی سمجھداری کی ضرورت ہے۔

### موقع کا انتخاب

اپنی زندگی میں ایسے اوقات تلاش کیجیے جن میں آسانی ہو، راستے میں بھیڑ کم ہو، سگنل سرخ نہ ہوں، ٹریفک میں اور ٹیکنگ کم ہو اور منزل آسانی سے حاصل ہو جائے۔ کوشش کیجیے اور اللہ سے دُعا بھی کیجیے کہ آئندہ آنے والے معاملات اور مراحل خوشگوار ہوں اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ گھر اور دفتر کے لوگ، راستے اور سڑکیں سب آپ کے لیے معاون ہوں۔ گھر اور دفتر کے درود یا رہارے لیے باعث سکون ہوں۔ ہمارے گھر کی تازہ روئی غریبوں کو جائے اور سوکھی روئی بھیڑ بکریوں اور دریا و سمندر کی مچھلیوں کو، تاکہ یہ سب ہمارے لیے دُعا کریں۔

### صحت کا جائزہ

اپنے جسمانی اور طبعی معاملات کا جائزہ لیجیے۔ اگر کس بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج کیجیے۔ اگر بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے تب بھی حکیم، ڈاکٹر اور اہل فرد سے گفتگو کیجیے۔ تھکن، غصہ، نظر بد اور سفلی اعمال کا جائزہ لیجیے اور ان کا علاج کروائیے۔ اس کے علاوہ اپنی خواراک کا جائزہ لیجیے۔ اس میں کسی قسم کی کمی ہے تو ڈاکٹر یا حکیم سے مشورے سے اس کا علاج کیجیے۔

### دوسرا حاضر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے

کاموں کو اپنے اور سوارمت کیجیے بلکہ خود اتنی صلاحیت پیدا کیجیے کہ آپ کاموں پر سوار ہو جائیں۔ اپنی درج ذیل صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجیے۔

- گفتگو (انگریزی اور اردو یا سرکاری زبان)

- سوچ اور غور و فکر

- تحریر (report writing)

- لوگوں سے ملنے کی صلاحیت

- لوگوں کے سامنے بات کرنے کی صلاحیت
- ٹیم ورک
- تقویض امور
- کمپیوٹر / انٹرمنیٹ
- اختساب

## کرنے کے دو کام

جب آپ کے سامنے کام آئے یا کسی پروجیکٹ کی ذمہ داری ڈالی جائے تو آپ کو دو اہم کام کرنے چاہئیں۔

**الف: الٹا کلینڈر(Reverse Calender)**۔ جس تاریخ کو کام کی تکمیل (ڈیوری) متعین کی گئی ہے اس سے آپ الٹا چلیں اور کام کے مختلف مرحلے نوٹ کر کے اس کے لیے نارکٹ مقرر کریں۔ ب: کام کے منطقی تکڑے کر لیں۔ جیسے آپ ڈبل روٹی کو اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال لیتے بلکہ پہلے اس کے سلاسل کرتے ہیں اور پھر لقے کر کے کھاتے ہیں۔ اس انداز سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔

اپنے آپ کو ان 'غ' سے بچائیے  
اپنے آپ کو مندرجہ ذیل 'غ' سے بچائیے۔

**الف۔ غصہ:** حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے اور یہ دوسروں کی غلطیوں کی اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔

**ب۔ غفلت:** اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی اختیار مت کیجیے اور حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔

**ج۔ غیبت:** اپنے بھائی یا دوست یا ساتھی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی سے بچے۔ یہ عادت طبیعت کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے اور زندگی غیر مطمئن رہتی ہے۔

**د۔ غبن:** کاموں کی یعنی دفتری اوقات کی چوری مت کیجیے۔ دفتر کی چیزوں کو ذاتی مفاد میں استعمال مت کیجیے۔ خیانت اور کرپشن سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایمانداری اور سچائی کے منافی عادات

ہیں۔ یہ طبیعت میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔

### بیلنس شیٹ

جب کسی کام میں تسابل پیدا ہو تو آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ کے درمیان ایک لکیر لگائیں اور اس کے باہم اور دوسریں جانب یہ تحریر کریں۔

<p><b>ب۔ دائنیں جانب:</b> اس کام کو کرنے سے آپ کو کیا فوائد ہوں گے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• آپ کی کن کن صلاحیتوں میں اضافہ ہو گا۔</li> <li>• آپ کی ترقی پر کیا اثرات ہوں گے۔</li> <li>• آپ کے تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے۔</li> <li>• کامیابی کی صورت میں کیا ہو گا۔</li> </ul>	<p><b>الف۔ باہمیں جانب:</b> اس کام کو کرنے کے لیے آپ کیوں تسابل کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس کی دو تین وجوہات سامنے آئیں۔ جیسے کیا ضروری ہے، خواہ مخواہ کا بوجھ ہے۔</p>
---	---

ان سوالات کے جوابات آپ میں حرکت اور قوت عمل پیدا کریں گے۔

### وصیت

وصیت کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان پر دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہئیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل اشیا اور امور کے بارے میں لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔ (مشکوٰ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے دنیا سے گیا وہ سیدھے راستے پر اور سفت والے راستہ پر دنیا سے گیا اور تقویٰ اور شہادت پر مرا اور مغفرت کی حالت میں دنیا سے گیا۔ (مشکوٰ)

وصیت لکھ کر آپ کا کافی بوجھ کم ہو جائے گا اور آپ کو سکون بھی ملے گا۔ کاغذ اور قلم اٹھا کر لکھنے کی کوشش کریں۔

### مالیاتی امور

مالیاتی امور خاص کر قرض کے لین دین، سرمایہ کاری و نفع و نقصان میں شرکت کے معاملات،

حصے، حقوق اور فرائض و ذمہ داریوں کی تقسیم اور اختیارات کی تفہیض کے معاملات فوری طور پر ضبط تحریر میں لے آئیں، ان دستاویزات پر متعلقہ افراد سے دستخط کروائیں اور گواہ بھی بنالیں۔ انسان عموماً ان چیزوں میں تاخیر کرتا ہے۔

### زکوٰۃ و وراثت

زکوٰۃ اور وراثت کی تقسیم میں دریمت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور وراثت کے ذریعے دولت کی تقسیم کا نظام بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے سالانہ حساب میں اندازے کی جگہ حقیقت پسندانہ طریقہ سے حساب کیجیے اور اس کی فوری تقسیم کا اہتمام کیجیے۔ اس انداز سے وراثت کی تقسیم، مرحومین کے انتقال کے فوراً بعد کر لیجیے۔ کم از کم وراثت کی کل رقم اور اس کی قدر و صحت (Value) تقسیم اور حصص کا تعین تو فوراً کر لیں۔ ادایگی معابرے کے مطابق کر لیں۔ اس معاملے میں درینہ کیجیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض یعنی تقسیم وراثت کے طریقے خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ اس لیے کہ یہ نصف علم ہے اور وہ بھلا دیا جائے گا اور پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ یہی ہے۔ (ابن ماجہ)

**نوٹ:** (جو لوگ انہائی ذمے داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکلنے کے بعد کچھ اضافی رقم نکال کر بخواہش یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے غرباً میں تقسیم کا اہتمام کریں کیوں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔)

### اپنی آخرت کی فکر

دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت مت تباہ کیجیے۔ دوسروں کے معاملات میں اتنا آگے بھی مت جائیے کہ اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔

### تکمیل پر خوشی کا اظہار

جب آپ کوئی اہم کام کر لیں تو خوشی منایے۔ دفتر میں ایسے موقع پر تقریبات کا اہتمام کیجیے۔ ایسیں موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کریں۔ جب گھر کی صفائی یا کوئی اہم کام کر لیں تو اہل خانہ کو بھی اپنی خوشی میں شرکت کیجیے۔

## استغفار

اپنے اب تک کے معاملات میں استغفار کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ معاملے اور حالات کی سازگاری کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے دین میں نمازوں کے اوقات، ترتیب، ذمے داریوں کا احساس اور نماز تجد وغیرہ ایسے امور ہیں جن کے باعث تسابل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ خوف خدا، تقویٰ، احتساب، انسان کو تسابل سے بچاتے ہیں اور انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور مدد جاری رہتی ہے۔

## جنائزے میں شرکت

جنائزوں میں شرکت کیجیے اور احساس رکھیے کہ کل آپ بھی اسی طرح لوگوں کے کندھوں پر ہوں گے۔ زیارت قبور کا اہتمام کیجیے اور مٹی کے پتلے کے مٹی بننے کے بارے میں سوچیے۔ یہ دونوں چیزیں آپ میں ترجیحات کا احساس پیدا کریں گی۔ جب آپ آج کے دن کو زندگی کا آخری دن محسوس کرنے لگیں گے تو آپ کی قوت عمل تیز ہو جائے گی اور آپ زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی ذمے داریوں سے عہدہ برآمد ہو سکیں گے۔ لیکن اس معاملے میں اپنی صحت اور تو انائی کا خیال رکھیے اور اس بات کا خیال کہ فن کی جیب نہیں ہوتی اور قبر میں بلب نہیں ہوگا۔

## حقوق نفس

اپنی تفریح کے اوقات کو پہچانیے اور ان اوقات میں تفریح ضرور کیجیے، ملتوی نہ کرتے رہیے۔ اپنے آپ کو تازہ دم ضرور کیجیے۔ کوہوں کے بیل مت بینے۔ شخصیت میں ہمہ جہتی توازن پیدا کرنے جو چیزیں ضروری ہیں ان پر عمل کیجیے۔

## چند سوالات

ان تجاویز اور مشوروں کے مطالعے کے بعد یہ امید کی جاسکتی ہے کہ آئندہ آپ درج ذیل سوالات کے جوابات ثابت انداز میں دے سکتے ہیں:

1- کیا میری زندگی کا نصب اعین واضح ہے۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

2- کیا میں نے اپنی منازل اور مقاصد متعین کی ہوئی ہیں۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

3- کیا ان کے لیے میں نے کوئی وقت معین کریں ہے۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

4- کیا میں نے اپنے کاموں کی کوئی فہرست تیار کر لی ہے۔ کیا اس فہرست کو میں باقاعدگی سے دیکھ سکتا ہوں تاکہ اس وجہ سے میری قوت عمل پر دباؤ آئے اور میں مستعد ہو کر کام کر سکوں؟

جواب:

5- کیا میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اہم اور اقدار والے کام پہلے کروں اور ہنگامی نویعت کے کاموں سے نمٹنے کے لیے صلاحیت اور افراد تیار کر لوں؟

جواب:

6- کیا ہنگامی صورت میں، عقل اور فرماست اور مطمئن فرد کی صورت میں کام کرتا ہوں؟

جواب:

7- کیا میں سچ سمجھ کر اور تجویز کر کے فیصلہ کرتا ہوں اور پھر یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں؟

جواب:

8- کیا میں ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیگر امور کو مناسب وقت کے لیے متعین کرتا ہوں؟

جواب:

9- جب میں ایک کام شروع کرتا ہوں تو پھر اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟

جواب:

10- کیا مجھ معدرات کرنے، یعنی ”نہ“ کہنے کا فن آتا ہے اور اسے میں سلیقے سے ادا کر سکتا ہوں، تاکہ دوسروں کے کام بلا وجہ اپنے ذمے نہ لوں؟

جواب:

11- کیا میں حال میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ میں ماضی پر افسوس نہیں کرتا اور خام خیالی میں نہیں رہتا؟

جواب:

12- کیا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کام کو احسن طریقہ سے کروں اور کام نتیجہ خیز ہو؟

جواب:

13- اگر مندرجہ بالا میں سے کسی کا جواب بھی نئی میں ہے تو میں مندرجہ ذیل اقدامات کروں گا۔

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

## ہشیار میںے، دوراندیش میںے

ایک صحابیؓ نے عرض کیا:

”اے پیغمبرؐ بتائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہشیار اور دوراندیش ہے۔“

نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، جو لوگ ایسے ہیں وہی داشمن دا اور ہشیار ہیں۔ انہوں نے دُنیا کی عزّت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔“ (مجمع الصفیر، طبرانی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا ستانہیں، بہت مہنگا اور قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔“ (ترمذی)

## دُعا میں

اپنے لیے صبح و شام میں چند لمحے، دُعاؤں کے لیے مخصوص کر لیں۔ چند منسون دُعا میں یاد کر لیں اور ان کا اہتمام کریں:

- اے اللہ، میں غم و فکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے چارگی اور کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بُنگل اور بُزدُلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قریش کے غلبے اور لوگوں کے تسلط سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔

- اے اللہ! میرے رزق میں برکت دے۔

- اے میرے پروردگار! میری مدد فرم اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرو اور مجھے فتح عنایت فرم اور مجھ پر کسی کو فتح نہ دے۔ میرے لیے تدبیر فرم، اور میرے خلاف کسی کی تدبیر نہ کرو اور مجھے ہدایت فرم اور میرے لیے راہ راست پر چلانا آسان کر دے اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرم۔ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر کر نیو والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرمانبردار بنا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا، زاری کرنے والا اور جو ع کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول کر لے، میرے گئنا ہوں کو وہ ہو ڈال، میری دُعا قبول فرم، میری دلیل اور جھٹ کو

ثبت بخش، میری زبان کو پچا بنا اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے۔ (الحزب الاعظم)

- اے اللہ، میں تھھ سے طلب کرتا ہوں آج کے دن کی خیر (و خوبی)، اور جو آج کے دن میں (پیش آنے والا) ہے اس کی خیر (و خوبی)، اور جو آج کے بعد (پیش آنے والا) ہے اس کی خیر (و خوبی) اور میں تھھ سے پناہ مانگتا ہوں آج کے دن کے شر سے اور جو آج کے دن میں (پیش آنے والا) ہے، اس کے شر سے اور جو آج کے بعد (پیش آنے والا) ہے اس کے شر سے۔
- اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ مجھ سے سرزد ہونے والی میری تمام حرکات و سکنات (چلتا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا) آج کے دن میں میرے حق میں بہتر ہیں تو، تو ان کو میرے لیے مقدر کر دے اور ان کو میرے لیے آسان کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ میرے حق میں شر اور ضرر رسان ہیں تو ان کو مجھ سے دور کھا اور مجھے ان سے دور کھا۔
- اے اللہ آپ ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنادیں۔ آمین۔

### آخری سوال

کیا میرا آج گزشتہ کل سے بہتر ہے؟  
 کیا میں نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو؟  
 اگر مجھ آج ہی آخری سفر پر روانہ ہونا پڑے تو کیا تیاری ہے؟

## چارت-9 جب کوئی کام آپ کے سپرد کیا جائے تو اس چارت سے مدد لیں

آپ کی ذاتے داری	کام یا پروجیکٹ کا نام			
تقویض کنندہ کا نام				
تاریخ تقویض				
کب تک مکمل کرنا ہے				
آپ کے اختیارات				
انسانی وسائل				
کام کی نویعت تفصیل اور خصوصیات				
مادی مالیاتی وسائل				
کام کے مرحلے				
اس کام کے شہرات				
ادارے کے لیے				
آپ کی ذات کے لیے				

بعض اوقات اداروں میں ہدایات کے بغیر کام دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس فارم کی روشنی میں دیے گئے کام کی منصوبہ بندری کریں اور اپنے افسر سے بات کریں کہ آپ کے ذہن میں اس کام پر عمل درآمد کا یا بکشن پلاں ہے۔

## Office Routine Chart

Self Designed Job Description  
Based on Experience in the Organization

S.No.	Nature of Work	Reporting		Routine				
		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

## Individual Delegation

Name of Delegatee: \_\_\_\_\_

Date of Delegation	Nature of Work/Communication	Deadline	Done	Remarks

## Delegation planning

### Routine Work

Title of Task	Priority	Delegate to	Name of Week Days/Months					

Symbols to be used in six columns

d: When delegated

c: Expected date of completion

## Project Delegation Chart

When More Than Two Persons Are Involved

Name of Persons (Delegatee) with targets date					Nature of Work (Steps)	Logical Sequence

فرض کریں آپ کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملٹے میں امور کی منطقی انداز میں ترتیب لکھ لیں، اضافی کالم میں آپ لوگوں (Location) کے آگے کے نام لکھ لیں جن سے آپ کو کام لینا ہے۔ اب ہر کام کے آگے فرد میں نشان لگادیں اور تاریخ کا ہدف لکھ لیں۔ جب کام کامل ہو جائے تو کسی دوسرے رنگ کی پہلی قلم سے نشان دیں۔

کیا آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں؟  
اگر ہاں!

تو پھر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے ناگزیر ہے

## شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر

وقت کے بارے میں اہم کتاب، جو ہر اس شخص کے لیے کامیابی کی کلید ہے جو ایک نئی شخصیت کی تعمیر کر کے اپنے گھر، دفتر، کار و بار، دوست احباب اور معاشرے میں ممتاز ہونا چاہتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ایک نئی، تازہ، پرسرت اور صحت مند زندگی کے دروازے پر آپ کی وہ دستک ہے جس کے بعد ترقی اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلتے جاتے ہیں۔ ایک نئی، ہمہ وقت، مستعد اور متوازن زندگی، کامیابوں کو اس قدر آسان بنا دیتی ہے کہ دولت، شہرت، عہدے اور خوشیاں سب آپ کی دسترس میں ہوتی ہیں۔

اس کتاب کے مطالعے کے بعد شخصیت اور فکر کی حیران کن تبدیلی نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی تحریر کر دے گی۔

صفحات 360 قیمت 150 روپے

قریبی بک اسٹال سے طلب کیجیے یا اس پتے پر آڑ رکب کرایے  
فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 021-2633887 فیکس:

پاکستان میں ڈاک سے مگوانے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

الفتح بک سینٹر

پوسٹ بکس 8545، کراچی 75530

[www.timemanagementclub.com](http://www.timemanagementclub.com)

دین اور دنیا میں سفر ازی، کام رنی اور خوش حالی کے سفر کا آغاز کیجیے  
سفر کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنی شخصیت کو موثر اور کامیاب بنائیے

شہر اہ زندگی--پہلا قدم

## مؤثر اور کامیاب شخصیت

محمد بشیر جمع

یہ کتاب بتاتی ہے کہ شخصیت کو موثر اور کامیاب کیسے بنایا جائے  
شخصیت کی تغیر کے کلیدی عناصر اور انھیں اپنانے کے طریقے  
سات معروف عادتیں جو آپ اپنالیں تو کامیابی آپ کی رفتی بن جاتی ہے  
کامیابی کا عہد نامہ جو ہر ہفتہ، ہر میہنے اور ہر سال آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کامیابی کا سفر کتنا اور کس طرح طے کیا ہے

زندگی کی جدوجہد میں ہر ایک کو کامیاب  
اور عام لوگوں کو خاص بنانے والی کتاب  
جس کا مطالعہ شہر اہ زندگی پر آپ کا پہلا قدم ثابت ہو گا  
رُنگیں سرورق، آنسٹ طباعت  
صفحات 90، قیمت 50 روپے  
اپنی کاپی آج ہی حاصل کیجیے۔

معیاری کتب فروشنوں کے علاوہ ان پتوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے:

فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991، 021-2633887 فکس: 021-2212991

پاکستان میں ڈاک سے مگوانے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈاچسٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

افتتاح بک سینٹر

پوسٹ بکس 8545، کراچی 75530

[www.timemanagementclub.com](http://www.timemanagementclub.com)

## رشتے آن لائن

بچوں کے رشتہوں کے لیے اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیے

[www.rishteyonline.com](http://www.rishteyonline.com)

ویب سائٹ پر دیے گئے فارم پر ضروری معلومات فراہم کر کے رابطے کی ابتدا کیجیے

بذریعہ خط تجویز اور مشوروں کے لیے اس پتے پر لکھیے

پوسٹ بکس 8545، کراچی-75530

**[www.rishteyonline.com](http://www.rishteyonline.com)**

دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہئے والوں کے لیے رہنمای کتاب

## شاہراہِ عافیت

حضرت علیؑ، امام مالکؓ، طاہر بن الحسین، خطاب بن معلیؑ، امانت بنت حارث اور خرم مراد کی تاریخی نصیحتوں اور وصیت ناموں پر مشتمل سبق آموز تحریر یہیں۔  
 زہد و تقویٰ، عملی زندگی کے انمول تجربوں اور آخرت کے تقاضوں کی بنیاد پر مرتب کیے گئے پندرہ سو دو مندرجہ ذیل سرے سے زندگی کی منصوبہ بندی پر اکساتے ہیں۔  
 بے ثبات دنیا کی عارضی زندگی اور دامم آباد آخرت کی حیاتِ مستقل... دونوں میں کامیابی اور سرخروئی کا لائچہ عمل... سب کے لیے۔

ایک ایسی کتاب جو آپ اپنے ان بیاروں کو تحفہ پیش کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں جن کی کامیابی چاہتے ہیں۔

ذاتی ترقی کے لیے سات صفحات پر مشتمل ایکشن پلان جوئی اور کامیاب زندگی کی منصوبہ بندی میں آپ کی مدد کرے گا۔

رنگیں سرورق، آفسٹ طباعت

صفحات 104، قیمت 50 روپے

قریبی بک اسٹال سے طلب کیجیے یا اس پتے پر آرڈر بک کرائیے  
 فضلی بک پر ماکیٹ، اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-22129991 فیکس: 021-2633887

پاکستان میں ڈاک سے مکونے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈاچجٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

لفظ بک سینٹر، پوسٹ بکس 8545، کراچی 75530

[www.timemanagementclub.com](http://www.timemanagementclub.com)

**یادداشتیں**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---